

# مفتامی انتظام کاری میں موثر شرائیت بہتریں میو نسل خدمات کی ضمانت

یونین کونسل سیکریٹریز کا تربیتی پروگرام



ڈیزائن اور سہولتکار  
شہزاد بخاری

جنوری 2023

# سيشن 1

تعارف

# یہ گھر آپ کا ہوا!

رمضان ایک بہت اعلیٰ مسٹری تھا اور وہ ریٹائر ہونے اور اپنی باقی زندگی اپنے خاندان کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے ٹھیکنیدار کو گھر کی تعمیر کا کام چھوڑنے اور اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ پر سکون زندگی گزارنے کے منسوبے کے بارے میں بتایا۔ اسے اپنی چھوڑنے کا بھی دکھ تھا مگر اسے لگتا تھا کام چھوڑنے اور اپنون میں زندگی گزارنے کا یہ صحیح وقت ہے۔ ٹھیکنیدار کو رمضان کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوتی کیونکہ وہ کمی سالوں سے ایک وفادار اور محنتی کارکن تھا، اس لیے اسے جاتے دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے رمضان کو ایک آخری احسان کرنے کی درخواست کی کہ ریٹائر ہونے سے پہلے صرف ایک اور گھر بنادے۔ رمضان نے حامی تو بھر لی مگر اس کا دل اپنے کام میں نہیں لگ بھاڑا۔

اس نے بہت بد دلی اور ناقص کاریگری کے ساتھ کمتر مواد استعمال کرتے ہوئے گھر کو مکمل کیا۔ یہ ایک عمدہ اور سرشار یکیرہ کو ختم کرنے کا ایک بد قسم طریقہ تھا۔ بڑھتی نے اپنا کام ختم کیا تو اس کا مالک گھر کا معائنة کرنے آیا۔ اس نے دروازے کی چابی رمضان کے حوالے کرتے ہوئے کیا۔



## "یہ گھر تمہارے لئے تھا ہے - تمہاری پر خلوص محنت کا صلہ"

رمضان چونک گیا! کیا شرم کی بات! اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ اپنا یہی گھر بناتا ہے تو وہ یہ سب کچھ بہتر اندازے کرتا۔ اب اسے اسی ناقص گھر میں رہنا تھا جو اس نے خود بنایا تھا۔

- ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں کی تعمیر کے عمل میں مصروف ہیں۔ دیکھنا سرف یہ ہے کہ۔۔۔
- کیا ہم مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ہم سست روی اور بغیر کسی کو شش کے؟
- کیا ہم چند بے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا پروادہ یعنی بغیر؟
- کیا ہم تمازٹ صلاحیتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنے کام پر فخر کر سکتے ہیں؟
- ہم کس قسم کی زندگی بناتا ہے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں کیا اثر لارہے ہیں؟

ہم اپنے جسم کو اور اپنے دماغ کو جو کھلاتے ہیں وہ وہ عوامل بھی ہماری زندگی کی طرز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا بہت محتاط رہیں کہ آپ اپنے دماغ کو کیا کھلاتے ہیں۔ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس پر غور کریں، کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ کہیں آپ غلط اقدار سے متاثر تو نہیں ہو رہے یا در رکھیں کہ آپ اہم ہیں اور آپ کو اپنے ذہن کو پروردش اچھے اور برابرے، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کے بنیاد پر کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں، تو یہ شاید اس کا تیجہ ہے جو آپ سالوں سے بنارہے ہیں! آپ کی آج کی زندگی مانشی میں آپ کے رویوں اور انتخاب کا تیجہ ہے۔ آپ کی کمی کی زندگی آپ کے رویوں اور آپ کے آج کے انتخاب کا تیجہ ہوگی۔ اپنی زندگی کو سمجھداری سے بنائیں!

کسی نے کیا خوب سماہ ہے: آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔

## آپ کی یوسی آپ کا گھر ہے۔ اسے سمجھداری سے تعمیر کریں۔

## تربیت کے مقاصد اور امکنہ

دوروزہ تربیت کے اختتام تک شرکاء۔

|  |  |
|--|--|
| <p>یو نین کو سل کے اختیارات، ذمہ داریاں اور فرائض کو جان سکیں گے۔</p> <p>موثر مقامی انتظام کاری کیلئے درکار لازمی شرائط، ترقیاتی مسائل اور انہی ترجیح سازی کر سکیں گے۔</p> <p>مقامی لوگوں کی ضروریات پر مبنی مقامی ترقیاتی سیکیوں کی تیاری اور ان کی عملی شراکت میں عملدرآمد اور نگرانی کو بہتر بناسکیں گے۔</p> <p>مقامی وسائل (انسانی، مالکی وسائل) کو متحرک اور ان کا کارآمد اور شفاف استعمال کرنے کے بارے جان سکیں گے۔</p> <p>یو نین کو نسل کے فنڈز اور ان کے اخراجات اور ان کی تشویش، اور لوگوں کی شکایات کا ازالہ کر سکیں گے۔</p> <p>لوکل گورنمنٹ اور کمبو نی ڈیلوپمنٹ ڈیپاٹمنٹ اور عام لوگوں کے درمیان تبیہ خیز رابطہ کاری کر سکیں گے۔</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>  |
|--|--|

## تربیت کا پروگرام



### سشن

- .5. پہلے دن کی دھراتی
- .6. ترقیاتی منصوبوں کی تیاری اور عملدرآمد
- .7. مفتامی حکومت کے فنڈز
- .8. کرپشن، شفافیت اور جوابدہی
- .9. شراکت داری اور رابطہ سازی
- .10. اختتام

- .1. تعارف
- .2. حقوق اور ذمہ داریاں
- .3. طرز حکمرانی
- .4. یو نین کو نسل کا انتظامی پہبیہ

## سیشن 2

حقوق اور ذمہ داریاں

# شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں



| ذمہ داریاں   | سمابی اور معاشری حقوق  | حقوق   |
|--|--|--|
| <p>سمابی مسائل سے آگاہ ہونا</p> <p>عوامی بحث اور سیاسی زندگی، ووٹنگ میں مشغول ہونا</p> <p>نقصانات اور ناصافی سے منہنے کے لیے فکر مند ہونا اور اقدامات کرنا</p> <p>اجتماعی کارروائی کو فروغ دینا</p> <p>دوسروں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا</p> <p>تمام رشتوں اور اداروں میں راداری اور انسانی حقوق کے احترام کو فروغ دینا</p> <p>دوسروں کے ساتھ شامل ہو کر مطالبہ کرنا کہ حقوق کو نافذ کیا جائے</p> | <p>مناسب اسکونگ کا حق</p> <p>صحت کی دیکھ بھال کا حق</p> <p>جنسی ترجیح کا حق</p> <p>معقول اجرت کے ساتھ ملازamt کا حق</p> <p>معقول رہائش کا حق</p> <p>صفات ماحول کا حق</p> <p>غذائی تحفظ کا حق</p> <p>توییدی صحت سے متعلق حقوق</p> <p>ترقی کا حق</p> | <p>شہری اور سیاسی حقوق؛ اجمن، تقریر، تحریک، مذہب کی آزادی، دوڑ دینے کا حق، جانیداد کے حقوق، وکالت کرنے اور حکومت سے جوابدی کا مطالبہ کرنے کا حق، قانون کے سامنے مساوی حقوق، منظم اور اجتماع کرنے کا حق، معلومات کا حق، جنسی یا گھر بیوں تعدد سے تحفظ اور آزادی کا حق</p> |

**مثال:** پیدائش کا اندرائج کسی شخص کی شاخت کو تدیم کرنے کی طرف پہلا قدم ہے جو ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ لہذا ایک بچہ پیدائش کے اندرائج کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داری مختلف لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا یقین کریں کہ اس کے حق کا احترام کیا جائے، اس کا تحفظ اور اسے پورا کیا جائے۔

## عمل

اں تمام سرگرمیاں کو شامل کرنا جو مثبت طور پر حق کو فروغ دینے، آگاہی پیدا کرنے، قوانین کے نفاذ، سرکاری افعال کی تربیت، بیگانی کی خدمات وغیرہ میں مدد فراہم کرے۔ یو نین کو نسل کا ایک اہم کام عوامی مفاد کی معلومات کی تریں بھی ہے۔ لوگوں کو پیدائش کے اندرائج کی افادیت کو سمجھنے میں ایسے طریقے استعمال کرنا کہ وہ اسے کسی جبر کے بغیر اپنانا چاہیں۔ یو نین کو نسل کو حقیقی معلومات حاصل کرنے کے لئے حاضر کارکنوں، لیڈی ہیملٹھور کر ز، ایل ایچ ڈیلیوز، زچی گھروں، وغیرہ کے گھروں ڈیلیوز کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہئے۔

## حفاظت

مقامی حکومت کو قوانین، پالیسیوں اور خدمات کی یقین دہانی کرنا۔ مثال کے طور پر پیدائش کے اندرائج کے لئے گاؤں کی سطح پر موبائل یونٹ، روایتی پیدائش کے حاضر کارکنوں، لیڈی ہیملٹھور کر ز، ایل ایچ ڈیلیوز، زچی گھروں، وغیرہ کے ذریعہ پیدائش کے اندرائج کی لی مہاں رپورٹنگ کو لازم قرار دینا۔ پیدائش کی تاریخی یا غلط پورٹنگ کے لئے تعزیراتی کارروائی متعارف کروانا۔

## احترام

چونکہ بچہ پیدائش کا اندرائج خود نہیں کر سکتا ہے، لہذا اولادیں اور گھر کے افراد کا یہ فرض ہے کہ وہ بچے کے حق کا احترام کریں۔ یو نین کو نسل والدین کو جائزیشن فارم، معلومات وغیرہ تک رسائی میں سہولت فراہم کرے تاکہ اس عمل کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔



## میں کیا کروں؟

یوسی میں ایک ذمہ دار کارگن کی حیثیت سے، کیا آپ اس صورتحال میں کیا سکتے ہیں؟



### شادی

گزیا بھی صرف 5 ماہ کی ہے، مگر اس کی شادی زبردستی یک بوڑھے شخص کے ساتھ کی جائی ہے کیونکہ اس کا گھر اداں کے قرضوں کے بوجھ تدبی ہوا ہے۔ اس کے والدے اس کی شادی کے لئے پیدائش کا جعلی اندراج کا انتظام بھی کر لیا ہے۔



### پانی

گاؤں میں تنگے پانی کی وجہ سے گاؤں کے بچے پڑیوں کی بیماری میں متلا ہیں۔ گاؤں کے رہائشی اس بیماری کے ساقرزندی گزارنے پر مجبور ہیں۔



### نکسی آب

گاؤں میں بدل کی بیماری کے بعد پورا گاؤں انٹیکشن میں متلا ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے لئے انہیں کیا کرنا پایا جائے۔ گاؤں میں بدل کا کوئی ماہر بھی موجود نہیں ہے۔



### تعلیم

7 ماں کے انل کوس کارڈی اسکول میں دنگہ نہیں مل رہا ہے بلکہ ہیئت ماسٹر اپنے اسکول میں ہندو و مسیحی داعل نہیں کرنا پایتا۔ انہیں کاروائی کرنے کے لئے انہیں کیا مار کر کرنا پایا جائے۔

آپ گویا کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟

کیا آپ کے پاس گاؤں والوں کے لئے کوئی حل موجود ہے؟

گاؤں کے کوگوں کو آپ کی مدد کی اثر ضرورت ہے....

کرشن کو کیا کرنا پایا جائے....




اس کے علاوہ، یہ بتائیں، کہ آپ مستقبل میں ان کے حقوق کا احترام، حفاظت اور ان کی تکمیل کو کس طرح یقینی بنائیں گے؟

| اقام   | تعلیم | نکسی آب | پانی | شادی، بیویہ و غیرہ |
|--------|-------|---------|------|--------------------|
| احترام |       |         |      |                    |
| حفظ    |       |         |      |                    |
| عمل    |       |         |      |                    |

# CHARTERS OF HUMAN RIGHTS<sup>1</sup>


# Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948)




Constitution of Pakistan (1973)




## Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)




Convention on the Rights of the Child (CRC-1989)



## Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD 2011)








ILO Core Conventions (1995)



<sup>1</sup> Source: Gender Based UC Management UNDP

# حقوق محفوظہ ہونے کے ناتج



اپنے ارد گرد بیجیے کبھیں ہمارے آس پاس ایسا تو نہیں ہو رہا۔  
اگر ہاں تو کبھیں اس کی پچھڑ مہداری ہم پر تو عائد نہیں ہوتی۔

### **سیشن 3**

طرز حکمرانی


# حکومتی منتقلی

(مرکزیت سے ڈی سنٹرالائزیشن)


پاکستان decentralization کو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کے ذریعے اٹھ دیا گیا۔ صوبائی حکومت کے زیادہ تر سروں ڈیلیوری کام مقامی حکومتوں کے پر دیکھے گئے تھے۔ جس کے تحت ایک کمیٹی لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ یعنی ضلع اور یونین کی سطح پر رکھی گئی تھی (تیسرا درجہ "تحصیل" بھی 2001 میں اس ڈھانچے کا حصہ تھی)۔

سیٹ اپ کے تحت زیادہ تنظیم اور طریقہ کار کام کر رہے ہیں اور سنٹرالائزیشن سیٹ اپ کے تحت زیادہ آہستہ آہستہ جو پکڑ چکی ہے۔ ملک میں گورنمنٹ کا چہہ ایک مرکزیت سے بدلتا چلا گیا، اوپر سے تنخے۔ غیر شرکت دار جو کہ decentralization ہے، زیادہ سے زیادہ شرکت کے موقع فراہم کرتا ہے اور عام شہری کی پہنچ میں ہے۔

PREVIOUSLY



NEW SYSTEM



لوکل گورنمنٹ کا مطلب ہے منتخب مقامی حکومتوں کو با اختیار بنانے کے ذریعے مقامی آبادی کو با اختیار بنانا۔ یہ شہریوں اور ان کے نمائندوں کو حکمرانی اور فیصلہ سازی کی سر بلندی پر رکھنے کے بارے میں ہے۔ یہ ان کے مسائل کو حل کرنے اور ان کی دبیز پر ان کی ضروریات کو حل کرنے کے بارے میں ہے۔

ملک میں 6000 (تقرباً) یونین کو نسل ایک ایسا ذریعہ میں جو عام لوگوں کو نچلی سطح پر وکندریقت کے فائدے کے راستے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ مقامی حکومت کی کسی اور سطح پر حکومت کو زیادہ جوابدہ، اتفاق رائے پر مبنی، موثر اور موثر، جامع اور قانون سازی کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے شہریوں میں شرکت، جوابدہی اور شفافیت کے اصولوں کو زیادہ موثر طریقے سے متعارف اور بڑھایا نہیں جاسکتا۔ اس طیارے سے ہی شہری اپنے مستقبل کی ذمہ داری سنبھالنا سیکھیں گے۔

## لوکل گورنمنٹ کے شہریوں کے لیے فائد؟

لوکل گورنمنٹ سسٹم کے متعارف ہونے سے پہلے، تمام حکومتی انتخابی اور پالیسی سازی مرکزی اور عوام سے دور واقع تھی۔ اصلاح میں ڈپٹی کمشنر کو پورے ضلع پر تمام اختیارات حاصل تھے۔ شہریوں کا اپنی سطح پر بھی حکمرانی میں حصہ لینے کا تصور نہ تھا۔ لوکل گورننس کے نظام کو ادارہ جاتی بنانے کے ذریعے سیاسی اور انتظامی نظام میں اصلاحات متعارف کرائی گئیں جس نے مقامی حکومت کی تمام سطحیوں پر شہریوں کی شرکت کے موقع فراہم کیے ہیں۔

وہ انتخابی جوزیادہ تر مرکزی اور صوبے میں واقع تھی، ضلع (تحصیل) اور یونین کی سطح پر اس قدر منتقل کردی گئی کہ اب مقامی حکومت کی ہر سطح کو اپنی ترقیاتی ضروریات کی نشاندہی کرنے اور ترجیح دینے کا اختیار حاصل ہے اور اس کے استعمال کا اختیار بھی۔ شرکت نے لوگوں کو اپنی برادری کے معاملات چلانے میں حصہ لینے کا حق دیا ہے۔ اس نے لوگوں کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ اپنی ترقیاتی ضروریات کی نشاندہی کریں اور انہیں ترجیح دیں۔

لوکل گورننس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نمائندے منصفانہ، آزادانہ اور شفاف انتخابی عمل کے ذریعے منتخب یکیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں کو اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کرنے کا حق حاصل ہے اور ہر وہ فرد جو بنیادی معیار پر پورا ارتقا ہے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ بلدیاتی نظام کی ساخت جمہوری ہے اور معاشرے کے تمام طبقات کو مخصوص نشستوں کی تقسیم کے ذریعے نمائندگی دی گئی ہے۔

## حکمرانی کیا ہے؟

"جمہوری" حکمرانی کا اصل امتحان وہی معیار ہے جس سے وہ شہریوں کے حقوق کے ثقافتی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی وعدوں پر پورا اترتی ہے۔

گورننس ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے عوامی ادارے عوامی امور کا انعقاد کرتے ہیں، عوامی وسائل کا انتظام کرتے ہیں اور شہریوں کو حقوق کے حصول کی نہماں دیتے ہیں۔

## اعلیٰ حکمرانی کیا ہے؟

اچھی حکمرانی بد عنوانی کو کم کرتی ہے، اقلیتوں کے نظریات کو مد نظر رکھتی ہے اور فیصلہ سازی کے دوران معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور لوگوں کی آواز کو بغور سنتی ہے۔

ایک اچھی حکمرانی کی خصوصیات میں اتفاق راتے، جو ابدی، شفافیت، ذمہ داری، موثر اقدامات، مساوات اور جامع قانون کی حکمرانی شامل ہے۔


## یونین کو نسل کی سطح پر حکمرانی



مقامی گورننس کے اہم نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ریاست کے معاملات اور اس کے ذریعے مقامی فیصلہ سازی میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نچلی سطح پر یونین کے ساتھ مقامی حکومت رکھنے کا مقصد حکومت کو عوام کے قریب لانا تھا۔ تاہم یونین کے اداروں اور منتخب نمائندوں کو جمہوری اور شرائکتی طرز حکمرانی کے تعارف اور متعبو طی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے انہیں اپنے افعال کو سمجھنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہو گئی اور ان کے لیے منقولہ اور نمائندہ سیٹ اپ میں ان کے لیے تصور کردہ کردار کو موثر طریقے سے ادا کرنا ہو گا۔

اچھی حکمرانی معاشرے کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کی خامن بھی ہوتی ہے۔

## حکومت کے درجات اور ان کا مینڈیٹ



## مقامی حکومتوں کے نظام میں یونین کو نسل کی اہمیت

"The State shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned and in such institutions special representation will be given to peasants, workers and women<sup>2</sup>"

مقامی حکومت کے اس درجے کا مقصد لوگوں کے ساتھ پنجی سطح پر رابطہ اور کسی بھی مقامی حکومت کے نظام کی اساس کو تشکیل دینا ہے۔

جس طرح مرکزی حکومت قومی رہنماؤں کو قومی حکمرانی میں ان کو خدمات فراہم کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے، اسی طرح یونین کو نسل لوگوں کو مقامی گورننس کا حصہ بننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔



یونین کو نسل حکومت کو لوگوں کی دلیل پر لاتی ہیں اور لوگوں کو حکومت کو جوابدہ رکھنے کا مینڈیٹ دیتی ہیں۔

یونین کو نسل کا مقصد یہ یقینی بنانا بھی ہے کہ ہر درجے کے ذریعے فراہم کردہ خدمات شہروں کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق ہوں۔




**"سیاسی طاقت کی منقلی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات کو پنجی سطح پر لوگوں کی ادارہ جاتی شرکت کے ذریعے اچھی حکمرانی، خدمات کی موثر فراہمی اور شفاف فیصلہ سازی کے لیے جوابدہ مقامی حکومتیں ہی بہتر حکومت عملی ہے"<sup>3</sup>**

<sup>2</sup> (Article 32, Chapter 2 on Principles of Policy of the 1973 Constitution states)

<sup>3</sup> LGO-2001

یونین کو نسلنڈ مورچ جمہوری حکمرانی کے ذرائع کے طور پر تباہی کام کر سکتی ہیں  
جب وہ خود اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو سمجھیں۔



اگرچہ پی ایل جی اے 2022 مقامی حکومت کی تمام سطحیوں پر عوام کی ادارہ جاتی شرکت فراہم کرتا ہے، پھر بھی یہ کہ سب سے نجی سطح پر یونین کی سطح پر پاکستان میں مقامی حکومتوں کی اصلاحات کی ہمہ گیر شراکتی نوعیت کی حقیقی نمائش ہے۔ ان یونینوں میں مقامی شرکت واضح ہے جہاں شہریوں کو یونین کو نسلنڈ مانیٹر نگ کمیٹیوں، کمیٹی کو نسلنڈ اور کمیٹی میڈ آر گھانائزیشنز کی شکل میں ادارہ جاتی بنیاد دی گئی ہے تاکہ وہ مقامی انتظام اور فیصلوں میں حصہ لے سکیں۔

# مقامی ترقی میں یونین کو نسل کا کردار

## ایک یونین کو نسل ---

|  |  |                                      |   |                                       |   |
|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  |  |                                      |   |                                       |   |
| قومی بحث بنانے کا عمل کی شروعات کرتی ہے۔ | اکاؤنٹس اور دیگر یکارڈوں کی تباہوں کی موثر بجا لی کرتی ہے، | موثر اور تیز خدمات کی فراہی کرتی ہے۔ | یونین کمیٹیوں کی کار کردگی کو موثر بنا لیتی ہے۔ | مقامی مسائل کے مقامی حل تلاش کرتی ہے۔ | یونین کی سلسلہ پر ہونے والے ترقیاتی کاموں کے معیار کو بہتر کرتی ہے۔ |

| نکسی اور فضلے کی انتظام کاری  | پانی کی فراہی   | عوامی صحت   |
|---|---|---|
|   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>نکسی آب، نکسی آب کی اسکیس، بہانے اور دھونے کے مقامات اور دھونی گھاٹ کچرے کو بہانا، جمع کرنا اور غماٹ کرنا۔</li> <li>مناسب جگہوں پر ہر جنس کے استعمال کے لئے الگ الگ مناسب تعداد میں بیت الغلہ مہیا کرنا</li> <li>فضلے کو جمع کرنا بہانا اور غماٹ کرنا</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>سرکاری اور بھی مقصود کے لئے پانی کی خاطر خواہ فراہی</li> <li>پانی کی فراہی کا بخی ذریعہ</li> <li>واڑپالائی کے عوامی اور بخی ذریعہ، عوامی واڑ کو رسز</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>عوامی صحت کو فروغ دینا</li> <li>صفاقی کی ذمہ داری</li> <li>پیدائش، اموات اور شادیاں یوں کا اندرانی اتفیکش و ای بیماری</li> <li>بنیادی صحت، تشکیر، بہپتا لوں، ڈپنسریوں، طبی امدادی یکمپ اور متعدد امراض کے باری طی معلومات</li> </ul> |
| ذبح خانے  | تعلیم   | گلیاں   |
|   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ذبح خانوں کے لئے بگد کی فراہی</li> <li>ذبح خانوں کی دیکھ بھاں اور نگرانی</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>پرائزیری تعلیم، تعلیم بالغان</li> <li>لائبریریاں اور تعلیم کے بارے میں لازمی اور عام معلومات</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>عوامی سرکیں، اسٹریٹ لائٹ، ٹرینیک پلانگ، پیلک و ہنیکل، اگ پار قابو پانا، سول ڈیفس، سیلاب، قحط، خطرناک اور جارحانہ چیزیں میں اور انگریز تجارت، تدبیح اور قربستان کے مقامات وغیرہ کے بارے میں عمومی فراہی</li> </ul>                    |

| قداء اور مشروبات  | جانوروں کی انتقام کاری  | پارک اور میدان  |
|---|---|---|
|    |    |  |
| کھانے پینے کی اشیاء، دودھ کی فراہی، سرکاری اور بھی بازاروں کے لئے قوانین  | جانوروں کی پوری، آوارہ اور خطرناک جانور،<br>جانوروں کے گھر اور فارم، مویشیوں کی بہتری“<br>مویشی شو، چڑیا گھر، لاشوں کی تلفی | باغبانی، باغات، حلی، جنگل، نرسری، درختوں اور پردوں سے متعلق معلومات                 |
| دیگر  | ثافت  | ترقیاتی کام   |
|    |    |  |
| یوسی کے لئے اسلام کا انتحاد، پیلک ہاؤ سنگ اسلام کی ترقی، اراضی کا خطرہ اور سیالاب پر قابوپانے کا پلان،<br>منہجی مقامات کی تعمیر و بحالی، پیشور غوطہ خروں اور<br>لائف گارڈز کی تربیت، آفات اور ہنگامی حالات میں<br>مداد۔ | ثافت، بھلے اور نماں   | ترقیاتی منصوبے<br>معاشرتی پر اجیکٹ<br>تجارتی سیکمیں                                 |

## اچھا سیکھری کون؟

شہری معاشرے کے مالک ہوتے ہیں جو حکومت عوام کے ذریعے بتتی ہے اور عوام صرف میں اور آپ میں۔ ایک یونین کو نسل کا بیکری ٹرینری ایک اچھا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے حقوق کو تحفظ دینے ان کی نمائندگی کرنے اور حکومتی ذمہ داریوں نبھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا بیکری صاحبان اس حقیقت سے کس حد تک واقن میں۔

| ... کیا کر سکتا ہے   | ... کون ہے  |
|--|---|
| <p>اچھا سیکھری.....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اپنی یونین کو نسل کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ رہ سکتا ہے۔</li> <li>• لوگوں کو مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔</li> <li>• لوگوں کو اختلافات کا احترام کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔</li> <li>• تازعات پر بات چیت کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔</li> <li>• دوسروں کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے (سماجی، قانونی، معاشی، سیاسی)۔</li> <li>• دوسروں کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔</li> <li>• دوسروں کو منظم کر سکتا ہے۔</li> <li>•</li> </ul> <p>لوگوں کو واضح معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔</p> <p>جن، عمر، نسل وغیرہ کی بنیاد پر اختلافات کے لیے حساسیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔</p> <p>پالیسی کے انتخاب اور حتمی نتائج کے بارے میں آمانی سے سمجھی جانے والی معلومات فراہم کرتا ہے۔</p> <p>پالیسی سازی میں شہریوں کو برادرست شامل کرتا ہے۔</p> <p>شہریوں کو تعلیم کے فروغ میں مدد فراہم کرتا ہے۔</p> <p>خواتین اور غریب لوگوں کو یاسی عمل میں شامل کرنے کے لیے مثبت اقدام کو نافذ کرتا ہے۔</p> | <p>اچھا سیکھری.....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، خاص طور پر پہمانہ طبقے کیلئے اجتماعی عمل اور اجتماعی جذبے کو فروغ دیتا ہے۔</li> <li>• دوسروں کا احترام کرتا ہے، انسانی حقوق کے احترام کی ترغیب دیتا ہے۔</li> <li>• تازعات میں شاثی کرتا ہے۔</li> <li>• رواداری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔</li> <li>• تبدیلی کے لیے پر امید ہوتا ہے۔</li> <li>• حالات سے باخبر ہوتا ہے۔</li> <li>• کمیوٹی اور قومی معاملات میں حصہ لیتا ہے۔</li> <li>• لاقبور مفادات پر نظر رکھتا ہے۔</li> <li>• مطالبات کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔</li> <li>• مقامی سیاست میں شرکتی جمورویت کو فروغ دیتا ہے۔</li> <li>• لوگوں کے حقوق کو تحفظ اور فروغ دیتا ہے۔</li> <li>• لوگوں کو واضح معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔</li> <li>•</li> </ul> |

## یونین سیکٹری کی طاقت اور اختیار

اکثر رہنمای سمجھتے ہیں کہ طاقت صرف کنٹرول اور سلطنت کا نام ہے۔ لیکن طاقت سے آپ بہت سے مثبت کام انجام دے سکتے ہیں۔ طاقت کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں۔

مثلاً:

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• علم اور معلومات</li> <li>• طاقت اور قوت</li> <li>• بد سلوک یخون کو متاثر کرنے کی صلاحیت</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• اختیار</li> <li>• پیسہ اور دولت</li> <li>• پوزیشن</li> </ul> |
|---|---|

لیکن حقیقت میں طاقت کو حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں۔

مثلاً:

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• عمر</li> <li>• راستہ بازی</li> <li>• نمبر</li> <li>• بیجتی</li> <li>• مزاج</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• استقامت</li> <li>• معلومات</li> <li>• عدل</li> <li>• تنقیم اور منصوبہ بندی</li> <li>• علم</li> <li>• تجربہ</li> </ul> |
|--|--|

ہماری زندگی میں بہت سے ایسے حالات آتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو طاقتوں محسوس کرتے ہیں اور اکثر بے اختیار محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً:

| حالات جب ہم بے اختیاری محسوس کرتے ہیں   | حالات جب ہم طاقتوں محسوس کرتے ہیں   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• بے عرف ہونا اور بے عرقی کرنا</li> <li>• نظر انداز ہونا</li> <li>• دقیانوں کی تصور کیا جانا اور موقع سے انکار کیا جانا</li> <li>• اپنے آپ کو ثابت کرنا</li> <li>• کنٹرول کا فقدان</li> <li>• نقصان ہونا</li> <li>• جہالت</li> <li>• شرم کی کمی</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• خود کو کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ڈال کر خوف یا لالہ کے احساس پر قابو پانا</li> <li>• اپنے عمل سے دوسروں میں بیچان بنانا</li> <li>• کسی ایسے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تخلیقی طریقہ تلاش کرنا جو ناقابل حل لگتا ہو</li> <li>• ایک مشکل اسائمنٹ کو سنبھالنے کے قابل ہونا</li> <li>• ایک لیدر کے طور پر نمایاں ہونا</li> <li>• دوسروں کی دیکھ بھال اور مدد کرنا</li> <li>• لوگوں کے ساتھ ایک گروپ میں شامل ہونا جن کو ایک ہی مسئلہ درپیش ہو</li> <li>• خوف کو متاثر کرنے اور غمتنگ کی صلاحیت</li> </ul> |



## اپنی کار کر دیگی کا جائزہ لیں

یہ سوالات میں مکریٹری کے کردار کے طور پر اپنی کار کر دیگی کی درجہ بندی کیے لئے ہے۔ اسے مکمل کرنے کے لیے 10 کردار کے بیانات میں سے ہر ایک کو پڑھیں۔ ہر بیان کے دائیں جانب کے بیانے میں، ایک ایسا نمبر منتخب کریں جو آپ کے خیال میں آپ کی کار کر دیگی کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ نمبر پردازہ لاکائیں مگر یاد رکھیں آپ وہ نمبر منتخب کریں جو اس کی عکاسی کرتا ہو۔

| ریکٹ    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  | کردار                 | نمبر  |    |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|-----------------------|---|----|
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | پالیسی سازی           | (اباد طے کرنے اور اباد کے حصول کے لیے متبادل کے انتخاب میں شامل ہو جاتا ہے)                                 | 1  |
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | فیصلہ سازی            | (جب کوئی انتخاب کرنا ہو تو پہنچاہن بناتا ہے)  | 2  |
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | فعال کرنا             | (دوسروں کے لیے چیزیں ممکن اور آسان ہناتا ہے جو انہی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں)۔                         | 3  |
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | کمیونیکیٹر            | (معلومات، خیالات اور احساسات کو درستگی سمجھ کے ساتھ دیتا اور وصول کرتا ہے)۔                                 | 4  |
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | مذاکرات کاری          | (ان افراد کی مدد کرتا ہے جو حل تک پہنچنے پر راضی نہیں ہیں)۔   | 5  |
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | سہولت کاری            | (مسئل کو حل کرنے، تازگات کو حل کرنے اور کاموں کو موثر طریقے سے انجام دینے کے لیے اجتماعی کوششیں کرواری ہے)۔ | 6  |
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | نگرانی                | (اس بات کو یقینی ہناتا ہے کہ صحیح کام کیجے جا رہے ہیں اور موثر طریقے سے کیجے جا رہے ہیں)۔                   | 7  |
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | پاور بروکر            | (ذاتی طور پر اور دوسروں کے ذریعے کام کرنے کے لیے مختلف قسم کی طاقت کا استعمال کرتا ہے)۔                     | 8  |
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | مالی وسائل کی رکھواری | (عوامی بیمه اکٹھا کرنے، مختص کرنے اور خرچ کرنے کے بارے میں فیصلے کرتا ہے)۔                                  | 9  |
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | ادارے سمجھ کرنا       | (عملی اور تجزیموں کو مجموعی طور پر بہتر بنانے اور ترقی دینے کی کوششیں کرواری ہے)۔                           | 10 |
| گل سکور |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |                       |   |    |

اگر آپ کا گل سکور 80 یا اس سے اور پر ہے تو مبارک ہو! آپ کی اعلیٰ قیادت کی کار کر دیگی ہے۔

اگر آپ کا گل سکور 50 یا اس سے کم ہے، تو ہو سکتا ہے آپ قیادت کے اس معیار کو استعمال نہ کر رہے ہوں جس کی کمیونیٹی کو اپنے مکریٹری سے توقع کرنی چاہیے۔




## کیا واقعی آپ موثر اور با اثر سیکٹری ہیں؟

گزشتہ مشق میں کل نمبر کی بنیاد پر، ان مختلف کرداروں کے بارے میں سوچیں (پالیسی ساز، فیصلہ ساز، فعال، بات چیت کرنے والا، مذاکرات کار، سہولت کار، نگران پاؤ ررو کر، ادارہ بنانے والا، فناں) اور وہ وقت یاد کریں جب آپ یو نین کو نسل سیکٹری کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے ایک لیڈر کے طور پر پیش آئے۔ واقعہ کے کم از کم ایک اہم ترین پہلو کو منجھے کی گلہ پر لٹھیں۔ گزشتہ مشق میں نمبر کم ہونے کی صورت میں یہ کردار اداہ کرپاٹے کی وجہ تائیں۔

| رینک | کردار                | نمبر |
|------|----------------------|------|
|      | پالیسی سازی          | 1    |
|      | فیصلہ سازی           | 2    |
|      | فعال کرنا            | 3    |
|      | کمیونیکیٹر           | 4    |
|      | مذاکرات کاری         | 5    |
|      | سہولت کاری           | 6    |
|      | نگرانی               | 7    |
|      | پاؤ ررو کر           | 8    |
|      | مالی وسائل کی رکھواں | 9    |
|      | ادارے کو متحکم کرنا  | 10   |

# یونین کو نسل کے قائدین کا کردار



## یونین کو نسل کے قائدین

یونین کو نسل کے قائدین کو روزمرہ کی بنیاد پر مندرجہ ذیل عوامل میں کمیونٹی کی شمولیت کو یقینی بنانا ہو گا۔



شمولیت

- ملاقاںی لوگوں کی ممبران کے ذریعہ کو نسل تک رسائی کو یقینی بنائیں۔
- ملاقاںیوں کے لئے مناسب دن اور اوقات کو یقینی بنائیں۔
- خواتین کی شرکت کو یقینی بنانے کیلئے مردانہ وارڈ اور علاقوں میں جلسہ کرنے سے گزیر کریں، جیسے مساجد، بازار، عوامی ریاست کی عمارتیں، بی ایچ یونیورسٹیوں کے اسکول، لائبریری ہال، کمیونٹی ہال، ایم اے یا ٹیکنیکل ہال، وغیرہ
- دعوت نامے مقامی زبان میں جاری کریں (یعنی اردو، سندھی، وغیرہ) اور اس بات کا یقین کریں کہ دعوت نامہ پہنچ ہجما ہے۔
- ناخواستہ طبقہ کی صورت میں، برادری کے اجلاؤں کے لئے زبانی پیغامات بھیجنیں۔
- خواتین گروپس کے ساتھ بات چیت کے لئے خواتین کو نسلرز اور LHWs کا استعمال کریں۔
- خواتین ممبران
- اوقات کا انتظام، جگہ کا انتخاب، بیت اخلاء، بیٹھنے کی جگہ، چھوٹے بچوں کے انتظامات کو یقینی بنائیں۔
- خواتین ممبروں کو ملاقاںوں کی سہولت کے مطابق مناسب دن اور وقت کا تعین کریں
- خواتین ممبران کو دیر تک بٹھانے سے گزیر کریں، جب تک کہ مخصوص آمد و رفت کا انتظام نہ کر دیا جائے۔
- مینگ کا ایک بڑا پیچھا جاری کریں تاکہ ممبر تیار ہو کر آسکیں۔

## یو نین کو نسل کے اندر

- پچھلی میٹنگ کے منٹ کی منظوری حاصل کریں
- خواتین کی نمایاں نمائندگی کی حوصلہ افزائی کریں
- تمام فریقین کو، فیصلوں، منظور پول سے آگاہ کریں
- شفافیت کو فروغ دیں جیسے۔ نوٹس، بورڈ، دفتر کی دیواروں پر آویزاں کریں۔
- کسی مخصوص ایجنسی کی بنیاد پر ابلاس کا انتقام کریں۔
- سہ ماہی کی پالیسی، پورٹل، مالاہ حساب کے بیانات، سہ ماہی مانیٹر نگ رپورٹس، کار کردگی کی سالانہ پورٹل میں تمام ممبران میں تلقیم کریں، خصوصاً خواتین میں۔
- سینئن برپورٹس اور دیگر واقعات کی کارروائی کے دوران خواتین ممبران کو ان کے تاثرات، تصریحوں کے لئے حوصلہ افزائی کریں۔
- پر ده دار خواتین کا احترام کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کا مناسب انتقام کریں، جیسے اگر کوئی بولنا یا کوئی سوال پوچھنا چاہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔

## یو نین کو نسل کے باہر

- اس بات کو یقینی بنائیں کہ بحث مبارحتے میں خواتین اور دوسرا منداہب کے لوگ شریک ہوں اور مثبت شمولیت اختیار کریں۔
- سب کو بولنے کا موقع دیا جائے، انہیں غور سے سنا جائے اور خاموش رہنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں۔
- ان علاقوں میں جہاں خواتین کو مردوں سے علیحدہ بھایا جاتا ہے، ان کو خصوصی سماعت دے کریاں سے اپنے سوالات یا تصریحے لکھنے کے لئے کہہ کر ان کی شرکت کو یقینی بنائیں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام کمزور طبقاتی گروپوں یعنی خواتین، لاکیوں، قلیتوں، معدور افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ وہ تمام عوامی جلسوں میں اپنی رائے اور تصریحے فراہم کریں۔
- خواتین ممبران کو بھی مالی معاملات سے متعلق آگاہ کریں۔

## خواتین کے لئے مناسب انتظامات (بیت الغل، نماز، علیحدہ بیٹھنے، وغیرہ)

- خواتین ملاقيتوں کے لئے مناسب اور ثقافتی لحاظ سے حساس انتشار گاہ کا انتقام کریں۔
- خواتین ملاقيتوں کی مدد اور کے لئے یو نین کو نسل میں کم از کم ایک خاتون ممبر کا ہونا ضرور ہے۔
- کو نسل کے تقدس اور ساکھ کو پر و ہمیکٹ کریں اور اس کی حفاظت کریں
- اقرباء پروری اور حمایت پرندی میں ملوث ہوں، ہر ممبر اور ملاقيتی کے ساتھ یکساں اور احترام سے سلوک کریں
- قانون کے مطابق مانیٹر نگ کمیٹیاں تشکیل دیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر مانیٹر نگ میٹنی میں کم از کم ایک خاتون ممبر موجود ہو
- نگرانی کے دوروں کے دوران، اس بات کو یقینی بنائیں کہ خواتین، لاکیوں، قلیتوں اور معدور افراد سے بھی خدمات کے بارے میں رائے میں۔



انفارسٹر کچر اور ماحول



فیصلہ سازی

## **سیشن 4**

**يونین کو لسل کا انتظامی پہلیہ**



## یونین کو نسل کا انتظامی پہبھیہ

ترتیب بہتری لانے کا ایک عمل ہے جو مجموعی طور پر معاشرے کی بہتری کے مقصد کے لئے ہوتا ہے۔ ترتیب پر یقین سے ہی معاشرتی، معاشی، جمہوری اور شہری حقوق میں بہتری لائی جاسکتی ہے اور ایک مخصوص وقت میں حالات کو اپنی بہتری کی حد تک پہنچانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔



## یونین کو نسل کے کام سے آگاہی


### گروپ ورک

یہ یونین کو نسل کے کام ہیں جو آپ روزانہ کی بنیاد پر انجام دیتے ہیں۔ اس مشق میں، آپ کو تمام فنکشن کو پڑھنا ہوا گا اور انہیں ڈیلوپمنٹ سائیکل کی دی گئی چار اقسام میں کلستر کرنا ہوا گا، تاکہ ہم ہر فنکشن کی نو عیت کو سمجھ سکیں۔

## 1۔ معلومات کو اکٹھا اور منظم کرنا

### میری خبر کا اثر!

ایک یونین کو نسل کی گھر یو سٹھ سے لی جانے والی معلومات قومی اعداد و شمار کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔



یونین کو نسل سے حاصل کی جانے والی معلومات

# یو نین کو نسل کا سکریٹری بطور معلومات کو اکھٹا اور ترسیل کرنے والا

سماجی و اقتصادی سروے کے لیے شماریاتی معلومات جمع اور برقرار رکھنا

| کیسے   | کیوں  | کیا   |
|--|---|---|
| <p>یو نین کو نسل کی صحیح پر مقامی حکومت کے لیے بہت سے ذراں سے متعلقہ معلومات جمع کرنا ممکن ہے۔ جیسے۔ یو نین کو نسل سکریٹری بی ایچ یو ز، سکولز، ویٹر زی، پٹواری، یو نین کو نسلز، کمیونٹی بیڈ آر سکنیز، مسجد، دلخ اور محلہ کو نسلز۔ تاہم، اس معلومات کو یو نین کے دفتر میں اکٹھا اور تجزیہ کرنا ہو گا۔</p> | <p>یہ یو نین کو نسل کی صحیح کی معلومات ہے جو قومی اعداد و شمار میں شامل ہوتی ہے۔ چونکہ یو نین کادر جہ کمیونٹی کے قریب ترین ہے، اس لیے معلومات کی تصدیقات اور تصدیقات کرنا اور اسے تازہ رکھنا ممکن ہے۔</p> | <p>ایک موثر یو نین کو نسل کے پاس سماجی (آبادی، پیدائش، موت، صحت، تعلیم، تشدد کے واقعات، پانی، تک رسائی، جرائم وغیرہ) اور معاشی (ذرائع معاش، فصلیں، ہنر، شیکنا لوچی کی دستیابی) کے لحاظ سے صافی تفہیں شدہ معلومات۔ (وغیرہ) صورت حال کی معلومات ہونا چاہیے۔</p> |

کاؤں اور محلے کی ترقیاتی ضروریات کو کیجا کریں

| کیسے  | کیوں   | کیا  |
|---|--|--|
| <p>رسی اور غیر رسی ذراں جیسے کاؤں اور پڑوس کی کو نسل، یو نین کو نسل، منتخب نمائندے، عوامی اور کمیونٹی مینگر، اور مقامی ترقیاتی فورمز اور اداروں عیسے گاؤں کی ترقیاتی کمیٹیوں کو عمل میں لایا جاسکتا ہے۔</p> | <p>لوگ گورنمنٹ سسٹم کی ایک دلیل مرکز سے منصوبہ بندی کو منتقل کرنا اور اسے کمیونٹی کے اندر لنگر انداز کرنا تھا۔ چونکہ مقامی حکومت کا یو نین کو نسل کادر جہ لوگوں کے قریب ہے، اس لیے وہ حقیقی ضروریات کی نشادی کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔</p> | <p>شہریوں کے مختلف زمروں کی ترقی کی ضروریات کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، اور ان معلومات کو جمع کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا تاکہ مطالبہ کے موژبیان اور ترقیاتی منصوبہ بندی کی جاسکے۔</p> |

پیدائش، اموات اور شادیوں کو رجسٹر کریں۔

| کیسے  | کیوں   | کیا   |
|---|--|---|
| <p>فی الحال یو نین کو نسل (سکریٹری) لین دوسرے ادارے جیسے چوکیدار، پٹواری، نمبر دار، مولوی، نائی وغیرہ بھی منکر ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک (پیدائش، شادی، موت) کا ایک رجسٹر رکھا جاتا ہے۔ اتفاقاً میہ اور فیصلہ سازی کے مقاصد کے لیے معلومات کو منبوط کرنے اور اسے اوپر کی طرف جوڑنے کی ضرورت ہے۔</p> | <p>سروس ڈپارٹمنٹ (اسکول، بنی اتحاد، پانی کی فراہمی، صفائی، رہائش) لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ یہ کیفرنگ موثر نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ضروریات (موبودہ اور مستقبل) حقیقت پر مبنی نہ ہوں۔ مناسب طریقے سے دیکھ بھال، پیدائش اور موت کا اندر ارج کسی بھی علاقے کی خدمت کی فراہمی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کو برادرست مطلع کر سکتا ہے۔</p> | <p>ایک مخصوص جغرافیائی علاقے میں انسانی وسائل کے ریکارڈ کو برقرار رکھنا۔ جس میں پیدائش، اموات، شادیاں، طلاق، نکاح، وغیرہ۔</p> |

## مفاد عامہ کے امور پر معلومات پھیلانا

| کیسے  | کیا  | کیوں   |
|---|--|--|
| <p>یونین کو نسل اور انتظامیہ سے متعلقہ تمام معلومات جیسے شماریاتی اعداد و شمار، ترقیاتی ضروریات، زیر عمل منصوبے، آمدنی کے ذرائع وغیرہ کو مرتب کر کے یونین کو نسل کو فراہم کیا جانا چاہیے۔ عوامی دیجیٹی کی تمام معلومات نمایاں چکھوں پر آؤیں اس کی جائیں۔ انتظامیہ کی طرف سے معابر دوں، ٹیکوں اور دیگر اطلاعات سے متعلق معلومات مسجد، یونین کو نسل یا دیگر عوامی مقامات پر آؤیں اس کی جائیں۔ کو نسل کے اجلاؤں کاریکارڈر جسٹر کو نسل کے سکرٹیوں میں سے ایک کے پاس رکھنا چاہیے اور درخواست پر شہریوں کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے۔ معلومات کو پھیلانے کے لیے متعدد ٹولز (میڈیا، مسجد، منہ زبانی، کو نسلرز) کا استعمال۔ یونین کو نسل مائنیٹر نگ کمیٹیوں کو درخواست کے مطابق بھی معلومات فراہم کرے گی۔ شکایت میں شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کے طور پر کام کرے گا۔</p> | <p>مفاد عامہ سے مراد "مشترکہ بہبود" یا "عمومی بہبود" ہے، اور یہ پالیسی مباحثوں، سیاست، جموریت اور خود حکومت کی نوعیت میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات پر بہت کم اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ عوامی مفاد کی اصل میں کیا چیز ہے۔ عوامی مفاد میں جب تک کہ اس سے کچھ آبادی کو فائدہ پہنچے اور کسی کو نقصان نہ پہنچے۔</p> | <p>یکش 137-2022 PLGO شہریوں کو مفاد عامہ کی معلومات تک رسائی کو یقینی بتاتا ہے۔ سرکاری ملازم میں پر یہ معلومات فراہم کرنا لازمی ہے۔ معلومات کی دستیابی اور شفافیت اعتساب کو یقینی بنانے کی جانب پہلا قدم ہے۔</p> |



## معلومات کا حصول

یوں کو نسل کی سطح پر

آپ مندرجہ ذیل معلومات کہان سے انٹھی کریں گے، اور اس معلومات کے ذرائع کیا ہوں گے اور کون اس معلومات سے فائدہ اٹھاسکے گا۔

| فائدہ اٹھانے والے | معلومات کے ذرائع | اقام   | نمبر |
|-------------------|------------------|--------|------|
|                   |                  | سماجی  | 1    |
|                   |                  | سیاسی  | 2    |
|                   |                  | معاشری | 3    |
|                   |                  | قانونی | 4    |
|                   |                  | دیگر   | 5    |



## اعدادو شمار کی مزید جانچ پڑتاں کیوں؟

قریب کی ایک یونین کونسل میں ایک تحقیق کی گئی تھی تاکہ اس قسم کے بیماریوں کا تعین کیا جاسکے جس نے اس علاقے کے 1 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کو متاثر کیا تھا۔ تحقیق سے ایک رپورٹ تیار کی گئی جس کے نتائج کچھ اس طرح تھے۔

25 فیصد بچے سردی اور فلو کا شکار تھے۔

38 فیصد بچے نداہیت کا شکار تھے۔

30 فیصد بچے جلد کے امراض میں بدلائے تھے۔

کیا منڈ کو رہ اعدادو شمار موثر اقدامات کرنے کے لئے کافی ہیں؟ آپ صنفی نقطہ نظر سے کون سے اضافی سوالات پوچھیں گے؟



| نمبر | سوال |
|------|------|
| 1    |      |
| 2    |      |
| 3    |      |
| 4    |      |
| 5    |      |
| 6    |      |
| 7    |      |
| 8    |      |

# کیا جنسی تفریق کے اعداد و شمار کافی ہیں؟

جب کسی بھی پالیسی، پروگرام یا منصوبے کے لئے معلومات جمع کی جاتی ہے تو، درج ذیل کو یقینی بنانا ضروری ہے۔

## جنسی تفریق کے اعداد و شمار کا حصول

اگر کسی مخصوص ترقیاتی کاموں میں صنفی امتیاز کی موجودگی سے آگاہ کرتا ہے

## صنفی اعداد و شمار کا حصول

یہ معلومات ان مخصوص امور کی نشاندہی کرتی ہے جہاں صنفی امتیاز موجود ہو۔

بیسے سکولوں میں لاکوں کی خواہدگی کی شرح لاکیوں سے دنکا ہے۔

بیسے لاکیاں سکول سے اکثر نیمیاں ستر رہتی ہیں کیونکہ انکی گھر میں ضرورت ہوتی ہے۔ کیاں کی پچانی والے دونوں ائمہ کام کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ جس سے اکثر گھر میں بیٹھنے کے لئے وقت نہیں ملتا اور ائمہ اسکوں میں سراہکنکھیا پہتی ہے۔ لاکیاں بلوغت تک پہنچنے پر اسکوں چھوڑ دیتی ہیں۔

یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کی مسئلہ تو ہے مگر یہ نہیں بتاتے کی کہاں ہے۔

یہ اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کے مسئلہ کہاں ہے مگر اس کا علی نہیں بتاتے

## صنفی تجزیاتی معلومات کی حقیقت

صنف کے اعداد و شمار کا یہ تجزیہ اختلافات کی وجہ اور ان کے ازالہ کے طریقوں کے بارے میں بتاتا ہے۔

بیسے اسماں کی مہم اور باقاعدگی سے حاضری کو یقینی بنانے کے لئے والدین کے ساتھ دکالت کرنا اداں لاکیوں کے لئے بوجکپاس کے کام میں صرف رہتی ہیں ان کے لئے خصوصی کلاسز کا اتفاق کرنا، تجیکوں کو سرداری نے والے اسماں کے خلاف سخت کارروائی کی درخواست و نیمیہ شامل ہے۔

نمبروں کے پچھے چھپی  
کہانی کو کھو جئے !!!

یہ تجزیے صنفی حساس منصوبوں اور سرگرمیوں  
کو ترتیب دینے میں معاون ہوتے ہیں۔

جب تک یہ تینوں اقدام نہیں انجام دے جاتے تب تک معلومات حقیقی تبدیلی لانے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتی ہیں



## مفادات کی معلومات کو پھیلانا



ایک موڑ یونین کو نسل کو اپنی تمام دلچسپی کے ساتھ کیوں تھی کے لوگوں کو تمام متعلقہ معلومات فراہم کرنا چاہئے۔ یوسی میں ہر قسم کی معلومات دستیاب ہونی چاہئے، خاص طور پر خواتین اور کمزور گروہوں تک اس معلومات کی ترسیل کا زرعیہ معلوم ہونا چاہیے۔

| دریجہ | تفصیل  | معلومات کی اقسام |
|-------|--|------------------|
|       | <p>صحت اور صفائی سے متعلق<br/>حفاظت سے متعلق<br/>تعلیم کے موقع</p> <hr/> <hr/> <hr/>                     | سمائجی           |
|       | <p>ہمیلی مہارتوں سے متعلق<br/>روزی کمائے کے ذرائع<br/>جادوں اور ماحولیاتی تبدیلیاں</p> <hr/> <hr/> <hr/> | معاشری           |
|       | <p>قومی شاخی کا رہ کو حصول<br/>ووٹ کی اہمیت<br/>سیاسی نمائندگان تک رسائی</p> <hr/> <hr/> <hr/>           | سیاسی            |
|       | <p>صفی انصاف کا حصول<br/>حقوق سے متعلق معلومات<br/>قوانين سے متعلق معلومات</p> <hr/> <hr/> <hr/>         | قانونی           |

# معلمات کی تریل کے ذرائع



کتابچے کی چھپائی اور چھپائی کرنا، اگر ضرورت ہو تو پوسٹرز، (اپنی مدد، جمارتی نیتیوں کے عطیات کے ذریعے)



خلیٰ بچہ یوں، مساجد، اسکولوں سمیت عوامی اجتماعات میں اعلانات کرنا




مقامی راستے ہندگان اور این جی اوز کے ساتھ نیٹ ورکنگ۔



مقامی میڈیا پورٹرز کے انٹرو یویز / ملاقات



ٹی وی / کبل اسٹیشنوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ



منادی

## خود سے پوچھئے

- کیا آپ کو یقین ہے کہ جس طرح سے معلمات کو پھیلایا جا رہا ہے اس سے تمام فریق یکساں طور پر مستقیم ہو رہے ہیں؟
- کس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو کم؟

## 2- وسائل کو متحرک اور منظم کرنا

### عوامی اور ذاتی وسائل


انفرادی مشن

پنج دیگھی لسٹ میں سے بتائیں کہ کون کون سے وسائل ذاتی میں اور کون کون سے عوامی

| وسائل           | ذاتی | عوامی |
|-----------------|------|-------|
| کھانا .1        |      |       |
| لحلونے .2       |      |       |
| کپڑے .3         |      |       |
| گلی گلی لائٹ .4 |      |       |
| جوتے .5         |      |       |
| سردک .6         |      |       |
| فون .7          |      |       |
| راتستے .8       |      |       |
| گھر .9          |      |       |
| قانون .10       |      |       |
| تعلیم .11       |      |       |
| T.V. .12        |      |       |
| قومی دفاع .13   |      |       |
| کار .14         |      |       |
| جنگلات .15      |      |       |
| پارک .16        |      |       |
| سینما .17       |      |       |
| صحت .18         |      |       |
| تازہ ہوا .19    |      |       |
| ہسپتال .20      |      |       |

## وسائل کیا ہیں؟

وسائل کا مطلب اندروںی صلاحیت، قابلیت ہے جو ضرورت کے وقت متحرک کی جاتی ہے۔ یا کسی شخص یا تنظیم کے ذریعہ کسی مسئلے کو حل کرنے یا موثر طریقے سے حل کرنے کیتے، رقم، مواد، عملہ اور دیگر اشائوں کی فراہمی کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔

### وسائل کی اقسام



#### مالی وسائل

رقم، کریڈٹ، سونا، زیورات، سامان، گاڑیاں، کتابیں، فیس (ممبر شپ)، چندہ وغیرہ۔



#### انسانی وسائل

مہارت، دیپنی اور حوصلہ افزائی کے ساتھ مرد اور عورت کے معاشرے کے افراد، نوجوان اور پیشہ ور افراد، زمین، اساتذہ، صحت کے کارکنان، سماجی متحرک کارکن، رہنماء وغیرہ۔



#### قدرتی وسائل

سورج، پانی، مٹی، درخت، معدنیات، ہوا، وغیرہ۔



#### عوامی وسائل

بینک، اسکول، صحت کے مراکز، پارکس، بہال، کلینک، لائبریری، سڑکیں، وغیرہ۔

### وسائل کو متحرک کرنے سے کیا مراد ہے؟

یہ ایک ایسا عمل ہے جو مخصوص مقاصد کے حصول کے لئے تحقیقی طور پر وسائل کی شاخت انہیں یکجا اور متحرک کرتا ہے۔ اس میں۔۔۔

- وسائل کی موجودہ رکاوٹوں کو دور کرنا
- رکاوٹ کی دوری میں درپیش مسائل کو دور کرنا
- مقامی ملکیت میں اضافہ کرنا
- مقامی صلاحیتوں کی تعمیر کرنا
- مقامی پریشانیوں کو حل نکالنا۔۔۔ شامل ہے۔



## وسائل کی انتظام کاری اور فریقین کی شمولیت؟



انسانی وسائل



مالی وسائل



عوامی وسائل



قدرتی وسائل



### 3۔ خدمات کی فراہمی

## مساوات پر مبنی ترقیاتی منصوبوں کی نشاندہی



### صرف برابری کامٹ سوچیں

برابری کی پہچان اور جیشیت کو جانے کیلئے۔



### مساوات کا سوچیں

مماٹن اور فرق کو باجاگ کرنے اور ان کی قدر کرنے کے لیے



### ترقی کی پائیداری کو یقینی بنائیں

یکساں طور پر پائیدار نتائج جو سب کو قابل قبول اور فائدہ مند ہوں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں مختلف گروہوں (مردوں، عورتوں، کسان، معدود، نوجوان، مددور، اقیت، خواہ سر) کی مختلف ضروریات اور ترجیحات میں تاکہ وہ یکساں پہچان اور جیشیت سے لطف انداز ہوں۔ صرف مساوات پر عمل کرنا مفید نہیں ہو گا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مماثتوں اور اختلافات کو سلیمانیجا جائے اور ان کی یکساں قدر کی جائے تاکہ تمام گروہ اپنی مکمل انسانی صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں، اور قومی، سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ترقی میں یکساں طور پر حصہ لے سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔

یہ درست ہے کہ صافی مساوات کا مطلب مرد، خواتین، نوجوان اور کمزور طبقوں کے لیے یکساں نتائج مہبیا کرنا ہے، لیکن پاکستان بیسے وسائل کی کمی والے ملک میں یہ بھی ضروری ہے کہ مساوی، موثر اور پائیدار ترقی کے لیے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ایسے موقع پیدا کریں جو سب کے لئے صرف قابل قبول ہوں بلکہ نتیجہ خیر بھی ہوں۔

**اپنے علاقے اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کسی مسئلے اور اس کے حل کی مثال بتائیں۔**

## ترقیاتی منصوبوں میں کمیونٹی کی شرکت

بلدیاتی نظام کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ حکمرانی میں شہریوں کی شرکت کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ ریاست کی تمام سطح پر عوامی شرکت جمہوری حکومت کا ایک لازمی جزو ہے۔

- عوام، نمائندے اور شہری متعلقہ حقائق فیصلہ سازوں کو دستیاب کر سکتے ہیں اور انہیں مختلف زاویوں سے مسائل کو دیکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔
- شرکت ایسا عمل ہے جس میں تمام حصہ دار مل کر وسائل کی تعمیم اور استعمال سے متعلق فیصلہ کرتے ہیں جس سے ان کی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- شرکت ایک ایسی صورت حال ہے جس میں افراد ایک موثر تعداد میں شرکت کرتے ہیں جس سے ان کے مالی حالات اور آمدنی میں اضافہ اور ذاتی تحفظ کا احساس بند ہوتا ہے۔

### شرکت کی اقسام:

- فیصلوں میں لوگوں کی ضروریات اجاگر کروانا اور ان ضروریات میں سے وہ اہم ضرورت جس کے بارے میں پراجیکٹ آیا ہے اس سے تعلق پیدا کرنا۔
- دوسری قسم کے فیصلوں میں کمیونٹی کو اس وقت شامل کیا جاتا ہے جب پراجیکٹ چل رہا ہو اور کمیونٹی کو روزمرہ کے اہم فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔
- تیسرا قسم کے وہ فیصلے ہیں جن میں پراجیکٹ ایک تنظیم بنائ کر لوگوں کو اس سے متعلق منصوبوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ پراجیکٹ کی تغیری مرحلے میں کمیونٹی کی شرکت

تغیری مرحلے میں کمیونٹی کی شرکت کے تین اصول:

| ترقیاتی پروگراموں میں شرکت   | روابط میں شرکت  | وسائل میں شرکت   |
|--|---|--|
| پروگرام کی سرگرمیوں سے متعلق فیصلوں میں کمیونٹی کی شرکت جو کہ ایک عام طور پر لوگوں کو پراجیکٹ میں شامل کرنے کا عمل ہے۔ | بائی روابط اور انتظامی کوششوں میں شرکت جس میں مقامی مزدوروں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ مشاوراتی کمیٹیوں میں لوگوں کی شرکت۔ | وسائل میں شرکت جو کہ مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے مثلاً مزدوری، نقد پیسوں کی شکل، تعمیراتی سامان کی شکل میں اور معلومات کی صورت میں بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ |



## عوامی خدمات کی فراہمی میں شرائکت کو یقینی بنانا

براہ کرم اپنے گروپ میں مشورہ کریں اور بتائیں کیا ان وسائل تک لوگوں کی رسائی ممکن ہے؟  
نیز یہ بھی بتائیں کہ خواتین تک ان خدمات کے حصول کو یقینی بنانے کے لئے کیا اضافی اقدامات کرنے ہوں گے؟

| خدمات       | Sr. | عوام کی وسائل تک رسائی | خواتین اور کمزور گروہوں کے لئے اضافی اقدامات |
|-------------|-----|------------------------|--|
| لائبریری    | 1   |                        |  |
| گلی کی لائس | 2   |                        |  |
| کھیل        | 3   |                        |  |
| معدور افراد | 4   |                        |  |
| چراغاں      | 5   |                        |  |
| پان         | 6   |                        |  |

## 4۔ نگرانی اور رہنمائی

### نگرانی کیا ہے؟

نگرانی سے مراد پیش رفت پر نظر رکھنے اور اس بات کا جائزہ لینے کے عمل سے ہے کہ آیا منصوبے پر عمل درآمد منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ کسی بھی قسم کی مائنٹر نگ کرنے کے لیے مائنٹر نگ پلان کے ساتھ شروع کرنا ضروری ہے۔ مائنٹر نگ پلان بتاتا ہے کہ کن چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے (پیش رفت کی پیمائش کے اشارے)، نگرانی کیسے کی جائے (ڈیٹا جمع کرنے کا ذمہ دار کون ہے، کتنی بار، اور کن ذرائع سے)، اور اس ڈیٹا کا تجزیہ اور اس منصوبے کو لاگو کرتے وقت کیسے استعمال کیا جائے گا۔ مائنٹر نگ سے مراد ریکارڈ کو برقرار کھانا، ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، اور تمام پروجیکٹ پارٹرز کے ساتھ مستقل بنیادوں پر نتاںگ کا اشتراک کرنا ہے۔ اس معلومات اور اس کے تجزیے سے اس حوالے سے ایک واضح تصویر فراہم کرنی چاہیے:

- آیا منصوبہ اور اس کی مختلف سرگرمیاں منصوبہ بندی کے مطابق لاگو کی جا رہی ہیں۔
- آیا مسائل کے علاقے میں (مثال کے طور پر، سرگرمیاں منصوبہ بندی کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہی میں یا کچھ کمیوٹر میں سست عمل)۔
- جو اچھی طرح سے کام کر رہا ہے۔ اس قسم کا تجزیہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ڈیٹا کو باقاعدگی سے اکٹھا کیا جائے، ریکارڈ کیا جائے اور تجزیہ کیا جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں شامل ہر فرد کو واضح ہو کہ کن اشارے کی نگرانی کی جا رہی ہے اور ڈیٹا کو کیسے جمع اور استعمال کیا جائے گا۔
- شرکتی نگرانی اور روتی نگرانی کے درمیان ایک اہم فرق ہے۔ شرکتی نگرانی کے معاملے میں، کمیونٹی کے اراکین - پروجیکٹ کے برادرست مستقید ہونے والے - نگرانی میں ایک فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کمیونٹی کی سطح پر ریکارڈ برقرار رکھتے ہیں، پیش رفت کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اس معلومات کو پروجیکٹ کے نفاذ کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
- اکثر نگرانی کو عطیہ دہندگان کی ضرورت سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے تمام نگرانی کی سرگرمیاں عطیہ دہندگان کے لیے روپرٹس تیار کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ اگرچہ عطیہ دہندگان کو بر وقت اطلاع دینا اہم ہے، نگرانی ایک پروجیکٹ کے اندر کلیدی کردار ادا کرتی ہے اور یہ سب سے زیادہ موثر ہوتی ہے جب اس کا استعمال زیادا جاتا ہے۔ پروجیکٹ کے شرکاء اور پروجیکٹ پر عمل درآمد کرنے والے پیش رفت کا جائزہ لینے اور روزمرہ کے فیصلے کرنے کے لیے۔

### مقامی حکومتوں کے نظام میں نگرانی کی رہنماء آصول

بائی رضامندی

شرکت

تمام اراکین سے تعاون

## نگرانی میں "کرنے" اور "نہ کرنے" کی باتیں

وقہ و قہ سے منتخب کاموں کے نتائج کے بارے میں معلومات کا جمع کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا نگرانی کھلا تا ہے۔ نگرانی منتقلین کو اس بات کا اہل بناتی ہے وہ اس بات کی بجائچ کر سکیں کہ آیا یہ سرگرمیاں منصوبہ بندی کے مطابق انجام دی جا رہی ہیں، اور ان کا آبادی پر متوقع اثرات پڑ رہے ہیں یا نہیں۔ ان کی آراء سے انتظامیہ کو منصوبوں کو بہتر بنانے اور اصلاحی اقدامات کرنے مدد ملتی ہے۔

عوامی کاموں میں ٹانگ مت اڑائیں



نگرانی کے عمل کے حصے کے طور پر  
معلومات حاصل کریں



دفاتری خدمات فراہم کرنے والوں کے کام میں  
مدخلت نہ کریں



بنیادی مسائل کی نشاندہی کریں



کارکنوں کو پریشان نہ کریں



خدمات کی فراہمی میں بہتری کا اعادہ کریں



رکاوٹ یا مسائل پیدا نہ کریں



احترام، دوستانہ اور نرم رویہ اپنائیں



اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط نہ کریں



سهولت کار کا کردار ادا کریں



نگرانی کے غیر منظم دوروں سے پرہیز کریں



نگرانی کیلئے ملاقاتوں کا انتظام کریں





## میری یو نین کو نسل میں بگرانی

اس وقت آپ کی یو نین کو نسل میں کون کون سے کام میں جن کی بگرانی ہو سکتی ہے یا کی جا رہی ہے؟

| نمبر | یو نین کو نسل کے کام | بگرانی کا طریقہ | شرکاء |
|------|----------------------|-----------------|-------|
| 1    |                      |                 |       |
| 2    |                      |                 |       |
| 3    |                      |                 |       |
| 4    |                      |                 |       |
| 5    |                      |                 |       |

# یو نین کو نسل کے کام کی بگانی



## گروپ و رک

ہر گروپ اس بات پر تبادلہ خیال کرے گا کہ یو نین کو نسل میکر ٹری کی جیشیت سے وہ کس طرح اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یو سی ما نیٹر نگ کمیٹیاں حساس ہیں۔

## 2 خدمات کی فراہی

آپ ابھی ٹریننگ سے واپس آئے ہیں اور اپنے چیز پر سن سے پہلی ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک روپلے کے ذریعے، چیز پر سن کو قاتل کریں کہ وہ غادم کی جیشیت سے اپنے کردار میں لوگوں کو یو نین کو نسل کی خدمات سے کس طرح زیادہ سے ذیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔

## 1 معلومات کی فراہی

آپ ابھی ٹریننگ سے واپس آئے ہیں اور اپنے چیز پر سن سے پہلی ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک روپلے کے ذریعے، چیز پر سن کو قاتل کریں کہ وہ کنویز کے طور پر اپنے کردار میں لوگوں کو یو نین کو نسل کی خدمات سے کس طرح زیادہ آگاہ کر سکتے ہیں۔

## 4 سربراہ اعلیٰ

آپ ابھی ٹریننگ سے واپس آئے ہیں اور اپنے چیز پر سن سے پہلی ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک روپلے کے ذریعے، چیز پر سن کو قاتل کریں کہ وہ یو نین کو نسل کے سربراہ اعلیٰ کی جیشیت سے اپنی یو نین کو نسل کو ایک مثالی یو نین کو نسل بناسکتے ہیں۔

## 3 بگانی

آپ ابھی ٹریننگ سے واپس آئے ہیں اور اپنے چیز پر سن سے پہلی ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک روپلے کے ذریعے، چیز پر سن کو قاتل کریں کہ وہ ایک بگانی کے طور پر اپنی یو نین کو نسل کے کاموں کی بہتر بگانی کیسے کر سکتے ہیں۔

## حکومت کی طرف سے نگرانی<sup>4</sup>

- وزیر اعلیٰ، وقاوٰ فقا، کسی مقامی حکومت کی طرف سے کاموں کو موثر طریقے سے انجام دینے کے لئے پالیسی پدایات اور مقصود طے کر سکتا ہے
- ممکنہ کا اچارج وزیر، ایک عام یا خصوصی حکم کے ذریعے، مقامی حکومت کو عوامی مفاد میں کوئی بھی اقدام اٹھانے کی پدایت کر سکتا ہے
- سیکریٹری مقامی حکومتوں پر نگرانی اور عمومی کنٹرول کا استعمال کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ وہ ہمیشہ عوامی مفاد میں کام کریں اور اپنے کام کو صحیتی کے ساتھ انجام دیں۔
- سکریٹری ڈائریکٹریٹ جز ل انسپیکٹریٹریڈائریکٹریٹ جز ل کی ڈپلٹ کو پدایت دے سکتا ہے کہ وہ لوگونہ نہ کے کاموں، منتخب عہدیداروں اور افسران کے طرز عمل سے متعلق کسی بھی معاملے کی تحقیقات کرے اور معاملات سے منسلک کے لیے مخصوص سفارشات کے ساتھ فیکٹ فائزڈ نگ روٹ فراہم کرے۔
- سیکریٹری مقامی حکومتوں کے کام سے متعلق عمومی امور کی تفصیلی پدایات جاری کر سکتا ہے۔
- وزیر اعلیٰ، وزیر پاکستانی، ایک عام یا خصوصی حکم کے ذریعے، بیجٹ آفیسر کو کوئی:
  - ریکارڈ، واپسی، بیان تجھیں
  - قوئیں سے متعلق کارروائی
  - حکم یا پدایات سے متعلق ریکارڈ
- مقامی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ضمیم قانون یا ضمیم قانون سے متعلق کوئی ریکارڈ
- سربراہ پلٹیئر و میل
- چیئر پر سن کے حکم یا پدایات
- مقامی حکومت کا کوئی افسر یا ملازم اور کسی طرح حکم یا پدایات سے متعلق ریکارڈ
- اعدادو شمار یا مقامی حکومت سے متعلق پاس یا اس کے زیر کنٹرول کسی معاملے سے متعلق دستاویز کی کاپی فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے یہ سربراہ، ڈپٹی میمن، اور چیئر پر سن کا فرض ہو گا کہ وہ کو نسلر، مقامی حکومت کا افسر اور ملازم بیجٹ آفیسر کو ایسی معلومات، دستاویزات اور ریکارڈ فراہم کرے جیسا کہ اسے ضرورت ہو۔

<sup>4</sup> Punjab Local Government Ordinance 2022, Section 146, 147, 148

## شرائیق تجزیہ

تجزیہ کیا ہے؟

ایک بار جب کوئی پروجیکٹ یا پروجیکٹ کی سرگرمی ممکن ہو جاتی ہے تو ایک تشخیص اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا اور کس حد تک پروجیکٹ یا سرگرمی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب تھی۔ ایک تشخیص کو انجام دینے سے یہ معلوم کرنا ممکن ہے:

- آیا منصوبہ منصوبہ کے مطابق نافذ کیا گیا تھا۔
- آیا پروجیکٹ نے مطلوبہ نتائج حاصل کیے ہیں۔
- آیا اس منصوبے نے جو منصوبہ بنندی کی تھی اس سے زیادہ حاصل کیا۔
- کیا اچھا کام کیا، اور کیا اچھا کام نہیں کیا۔
- مختلف طریقے سے کیا کیا جاسکتا تھا یہ تجزیہ مزید تعین کرنے میں مدد کرتا ہے:
- آیا ایسے منصوبوں یا سرگرمیوں کو اسی جغرافیائی علاقے میں مزید وقت کے لیے بڑھایا جانا چاہیے۔
- آیا ایک جیسی یا اسی قسم کی سرگرمیاں کہیں اور نقل کی جائیں۔
- کیا اس منصوبے کو موثر ہونے کے لیے حکمت عملی اور نقطہ نظر میں بڑی تبدیلیوں کی نیروں روت ہے۔

تجزیہ کے چار نقطہ نظر

بنیادی تشخیصی طریقوں میں چار زمرے شامل ہیں جن کا بنیادی مقصد وقت سے متعلق ہے:


| تشکیلاتی (وسط مدتی)  | متوقع (سابقہ)  |
|--|--|
| <b>Formative (mid-term)</b>  | <b>Prospective (ex-ante)</b>   |
| تشخیص پروگرام کے ابتدائی مراحل میں کارکردگی یا نفاذ کو ہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ یہ پروگرام کے دوران منعقد کیا جاتا ہے۔   | تشخیص کو پروگرام کے مضمراً اپنے کو واضح کرنا چاہیے، موجودہ سیاق و سابق کے پیش نظر ممکنہ کامیابی کا تجھیہ لگانا چاہیے اور پروگرام کے آغاز سے پہلے اس کی تشخیص کا تعین کرنا چاہیے۔ |
| امیکٹ (ماقبہ بعد)  | خلاصہ (حتیٰ)   |
| <b>Impact (ex-post)</b>  | <b>Summative (final)</b>   |
| تشخیص اثرات اور ان کی پائیداری پر مرکوز ہے اور اس لیے پروگرام کی مکملی کے بعد سے تمی شکل دی جانی چاہیے (تاثر، مدائلت کے آغاز سے پہلے اثر کی صحیح تشخیص شروع ہونی پاہیے)۔ | تشخیص پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ نتائج (اثر/نتائج) یہ مخصوص و قصیر پروگرام کے بعد کیا جاتا ہے۔ مکمل اور یہ عام طور پر پروگرام کی نقل کے فیملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔               |

## **سیشن 5**


**ترقیاتی منصوبوں کی تیاری**

**اور عملدرآمد**

## BUDGET CYCLE



## PROCESSING OF DEVELOPMENT PROJECTS



## بائٹم اپ پلانگ اور کمیوٹی اوزر شپ

(Bottom-up Planning and the Community Ownership)

اسکیم کے جمع کرانے اور منظوری کا طریقہ کار<sup>5</sup>

نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ، پنجاب نے واضح طور پر نیچے تک کی منصوبہ بندی اور ترقی کے نقطہ نظر کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مالی سال کے آغاز سے پہلے متعلقہ مقامی حکومت اس سیکشن کی دفعات کے تحت خصوصی طور پر شروع کی جانے والی ترقیاتی سیکیموں کی درج بندی کرے گی اور اعلان کرے گی۔

مقامی حکومت اپنے مقامی علاقوں میں کمیوٹی بیڈ آر گنازیشن کو منظور شدہ ترقیاتی سیکیم کے بحث کی رقم کا اسی فیصلہ تک تجویز کردہ طریقے سے دے سکتی ہے۔ بشرطیکہ کسی اسکیم کو منظور شدہ اسکیم سمجھا جائے گا اگر:

|   |  |
|---|--|
| اسکیم کی لگت کا تحریک لانے کے لیے مقررہ محکمانہ طریقہ کا رپر عمل کیا گیا ہے۔                      |  |
| تحمینہ لانے والا افسر تصدیق کرتا ہے کہ اسکیم قانون کے ذریعے ملے شدہ تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔       |  |
| کمیوٹی بیڈ آر گنازیشن نے ترقیاتی سیکیم کی لگت کا اپنا حصہ متعلقہ مقامی حکومت کے پاس جمع کرایا ہے۔ |  |
| مکمل محکمانہ تحریک اور کمیوٹی بیڈ آر گنازیشن کے تعاون کے جمع ہونے کے ثبوت منسلک ہوں۔              |  |

## کمیوٹی کو با اختیار بنانا اور متحرک کرنا

کمیوٹی پر مبنی تنظیمیں<sup>6</sup> (CBOs) (a)

کمیوٹی کو نسل اور پیچایت کے ذریعے کمیوٹی موبائلیشن<sup>7</sup> (b)


<sup>5</sup> (Section 78, PLGA-2022, Punjab)

<sup>6</sup> (Section 129-140, Chapter XXIII, PLGA-2022, Punjab)

<sup>7</sup> Section 123-124, Chapter – XXII, PLGA-2022, Punjab

## Development Project Stages & Cycle

Project cycle is a combination of following 07 stages



# **SAMPLE Development Project**

*(Sialpur Multipurpose Education Facility for Girls)*

## **FORM BDD-4**

**PROJECT PROPOSAL**

**Budget Year 2022-23**

### **PART-1**

#### **I.      Name of Project**

1.      **Name of Project:** Multi-Purpose Education Facility for Girls
2.      **Project Code:** Education Code

#### **II.     Implementation Arrangement for the Project**

1.      **Sponsoring Agency:** Education Dept
2.      **Executing Agency:** Buildings & Works
3.      **Implementing Agency after Completion:** Education Dept
4.      **Indicate the Capacity (personnel etc.) to implement the current proposal and the capacity to manage it after completion:** DDO Sialpur Tehsil Women – Elementary

#### **III.    Proposed Project Profile**

1.      **Commencement Date of Project:** Aug 2022
2.      **Completion Date of Project:** Dec 2023
3.      **Location/Geographic Area Covered by the Project:** Sialpur Tehsil, Malpur District
4.      **Main Sector/Sub-sector:** Girls Education
5.      **Provide a brief analysis of the Current situation (issues/problems/on-going efforts) in the sector/sub-sector?:** Illiteracy and elementary school drop-out rates are highest in Sialpur Tehsil. Malpur Budget Policy has prioritized expansion in girls elementary education in partnership with local NGO.
6.      **Main Description and Objectives** (What does the project aim to do and achieve?): Objectives to increase the rate of literacy among girls from poor families in Sialpur. This project will provide additional classroom for 30-40 girls along with necessary facilities and will aim to provide formal and non formal education in partnership with Sialpur Social Development Society (DSDS) which will operate the facility after hours between 5-7 pm on a daily basis.
7.      **Please indicate how the environmental/poverty aspects of the project have been taken into account.** The facility will only be available to girls from target poor households.
8.      **Provide details of:**
  - **related facilities providing similar services:** None at present
  - **institutions performing similar activities:** DSDS
  - **similar projects.** None

**IV. Project Activities**

**A (Inputs/Outputs/ Work Plan)**

| Sr. No | Activity     | Start Date | Completion Date | Targets | Units                     |
|--------|--------------|------------|-----------------|---------|---------------------------|
|        | Earthmoving  | Aug        | Dec             | 5 days  | Qty earth moved           |
|        | Foundation   | Aug        | Dec             | 20 days | Qty sand & cement         |
|        | Walls        | Aug        | Dec             | 5 days  | Qty sand, cement, bricks  |
|        | Roofing      | Aug        | Dec             | 20 days | Qty cement, rods, tiles   |
|        | Flooring     | Aug        | Dec             | 5 days  | Qty cement ,tiles         |
|        | Fixtures     | Aug        | Dec             | 5 days  | Qty electricity, drainage |
|        | Fittings     | Aug        | Dec             | 5 days  | Qty basin, toilet         |
|        | Whitewashing | Aug        | Dec             | 3 days  | Qty distemper             |

Provide Details/Explanation of Work Plan on Separate sheet if required.

**B. Project Beneficiaries**

| Type Of Benefit  | Male | Female | Total |
|------------------|------|--------|-------|
| Formal Education |      | 30     | 30    |
| Non Formal       |      | 50     | 50    |

**C. Other Benefits:** Other benefits include basic orientation on health care and nutrition for beneficiaries and parents; orientation on importance of education for women's advancement

**D. Interaction with other agencies**

| Name of Agency/Office              | Type of interaction / work required   |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Sialpur District Planning Office   | For obtaining evaluation & approval   |
| Sialpur Finance & Budget Office    | For release of funds                  |
| Sialpur District Works & Services  | For estimation, design & construction |
| Sialpur Social Development Society | Co-management                         |

**V. Community Participation Component in the Project**

**How was the community (Men and Women) involved in need identification/preparation of project proposal?** Discussions were held to consult local community about needs and interest

**How do you propose to involve the community (Men and Women) in project implementation?** Proposals to involve the community/ Union Nazim in scheme monitoring.

**How will the community (Men and Women) be involved after completion of this project?** It is anticipated that the community will contribute funds for non-formal component and be represented on management committee.

**VI. Project Management**

**How will you manage the workplan and carry out monitoring of the Project.**

Please refer to attached workplan and schedule

**Explain the system for keeping record and reporting of information.**

As per the engineers manual for implementation with monthly progress and completion reports. All information on attendance, retention and improvement in education standards will be collected by DRDS and conveyed to DDO Women Elementary Education for reporting to Council.

## VII. **Financial Summary of Project**

**a. Anticipated sources of funding:** ADP; (10%) funding earmarked from proposed own-revenue increases as per Sialpur Budget Policy; recurrent costs will be funded from revenue derived from community contributions totaling Rs 50,000 pa

### b. Total Cost of Project

|   |                    |
|---|--------------------|
| Development Costs/One Time Cost                   | Rs 246,000         |
| Yearly recurrent cost after completion of project |                    |
| Salary  | Rs 70,000          |
| Non-salary  | Rs 2,00,000        |
| <b>Total</b>                                      | <b>Rs. 516,000</b> |

### c. Sources of funding of recurring cost:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Current expenditure     | <b>75%</b> |
| Community contributions | <b>25%</b> |

## **PART-2 (a) (Exercise Version)**

## VIII. **Detailed Costs of the Project**

### A. Development Cost Construction of Classroom Extension for Additional Elementary Education Facility.

| # | Item Description                   | Costs (Rupees) |        |        |        |      |       |
|---|------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------|-------|
|   |                                    | Year 1         | Year 2 | Year 3 | Year 4 | +... | Total |
|   | <b>Materials</b>                   | 1,00,000       |        |        |        |      |       |
|   | - Sand                             | 10,000         |        |        |        |      |       |
|   | - Cement                           | 20,000         |        |        |        |      |       |
|   | - Bricks (Grade C)                 | 25,000         |        |        |        |      |       |
|   | - Iron Rods                        | 30,000         |        |        |        |      |       |
|   | - Clay Tiles                       | 15,000         |        |        |        |      |       |
|   | <b>Labour</b>                      | 30,000         |        |        |        |      |       |
|   | <b>Fixtures</b>                    | 30,000         |        |        |        |      |       |
|   | <b>Fittings</b>                    | 30,000         |        |        |        |      |       |
|   | <b>Transportation of materials</b> | 10,000         |        |        |        |      |       |
|   | <b>Total</b>                       | 2,00,000       |        |        |        |      |       |

Note These rates are fixed as per CSR

### B. Annual Recurring Cost after Completion of project

First List all Annual Recurrent Cost Components and Items:

EG: Establishment Staffing Details (See table C)

Salary

- 1 Teacher
- 1 Peon

Electricity

Monthly consumption estimate

Stationery

Monthly consumption

Annual Maintenance of Buildings

Repairs to building

Maintenance of building

Grant: 30

Detailed Function Code:

Rupees

| Sr. # | Major/Minor Detailed Function Code                    | Major/Minor Detailed Object Head         | Total |
|-------|---|--|-------|
|       | Education<br>Elementary Education<br>Female Education | Salary<br>TA/ DA                         |       |
|       |   | Electricity<br>Stationery<br>Maintenance |       |

**C. Staffing Details after Completion of Project**

| Sr. # | BPS | No. of Posts | Designation | Sanctioned |        |                |       |
|-------|-----|--------------|-------------|------------|--------|----------------|-------|
|       |     |              |             | Male       | Female | Male or Female | Total |
|       |     | 1            | Teacher     |            | 1      |                | 1     |
|       |     | Total        |             |            |        |                | 1     |

**IX. Estimated Revenues of the Project if any**

Rupees

| Sr. No. | Major/Minor Detailed Receipt Head | Total |
|---------|-----------------------------------|-------|
|         | None                              |       |
| Total   |                                   |       |

**Note:** Show detailed calculations on a separate sheet

**X Proposed Progress Reporting Schedule**

| Sr. No. | Name / Details Of Report | Date / Frequency Of Submission |
|---------|--------------------------|--------------------------------|
|         | Quarterly Report         | End Last Quarter 2022          |
|         | Completion Report        | December 2022                  |

**XI Indicate the risk involved in the project.**

None

**XII Project Preparation/Approval**

Prepared by L. Ahmed Date \_\_\_\_\_

**(Exercise – identify a small project for your village and complete the proposal – BDD form attached as Annex 01)**

## اچھے ترقیاتی پروجیکٹ کی خصوصیات

لوگوں نے بحث کے نتاظر میں "پروجیکٹ" سے مراد ترقیاتی منصوبے میں جو ترقیاتی بحث کے ذریعے شروع کیے جاتے ہیں اور ان کی ترقیاتی منصوبوں کے طور پر درجہ بندی کی جاتی ہے (فارم4D BDD)۔ اچھے منصوبے کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

### 1. اسٹیک ہولڈرز کی شاخت:

منطقی کے تصور کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے عمل کو نکلی سطح تک لے جایا جائے، اور فیصلہ سازی میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے حاصل کی جائے۔ ایک پروجیکٹ اس کی شاخت سے شروع ہوتا ہے۔ بہترین منصوبے وہ ہوں گے جن کی شاخت نیچے سے اوپر کی منصوبہ بندی کے عمل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ "بالم اپ پلانگ" کی اصطلاح کا مطلب ہے جب ترقیاتی اسٹیکوں کے لیے فیصلہ سازی مرکزی منصوبہ بندی پر زور دینے کے بجائے، جنمی صارفین کی ضروریات اور سفارشات پر کی جاتی ہے۔ پروجیکٹ کی شاخت کے لیے نیچے سے اوپر کے نقطہ نظر کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت اور مشاورت کی ضرورت ہو گی۔

### 2. لوگوں کیلئے قابل قول:

صارفین کے لیے پروجیکٹ کی افادیت اچھے پروجیکٹ کا بنیادی جزو ہے۔ اگر مجازہ پروجیکٹ کمیونٹی کی کسی حقیقی ضرورت کو پورا نہیں کرتا تو اسے ایک اچھا پروجیکٹ نہیں کہا جاسکتا۔

### 3. ترجیحی بندیاں:

اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرور توں اور مجازہ منصوبوں کی نشاندہی میں مدد ملے گی۔ تاہم، ضروریات لامدد ہوں گی، جبکہ وسائل محدود ہیں۔ ضرور توں اور مجازہ منصوبوں کو ترجیح دینے کی ضرورت ہو گی۔ ایک اچھا پروجیکٹ وہ ہو گا جو فائدہ اٹھانے والے لوگوں اور اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے طے شدہ ترجیح کے مطابق ہو گا۔

### 4. قابل مالی طور پر قابل قول:

مجازہ پروجیکٹ مقامی حکومت کے مالی وسائل کے اندر ہونا چاہیے۔ مالی طور پر ناقابل برداشت منصوبہ ناممکن رہ سکتا ہے جس کے نتیجے میں پہلے سے ہی نایاب وسائل کا ضیاءع ہوتا ہے۔

### 5. قابل عمل:

غلط فیصلہ کرنے سے پہنچنے کے لیے مجازہ منصوبے کی فزیلٹی کا بغور جائزہ لیانا چاہیے۔ مقامی حالات کے پیش نظر ایک اچھا پروجیکٹ قابل عمل ہونا چاہیے۔ ایک مثال پیش کے پانی کے لیے اضافی پابندیاں پہنچانا ہے۔ اگر یہ دستیاب پانی کی کل مقدار پر غور کیے بغیر کیا جاتا ہے، تو یہ موجودہ صارفین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح مطلوبہ مہارت اور افرادی قوت کی دستیابی کے بغیر ہائی ٹیک پروجیکٹ کی تجویز کو قابل عمل نہیں کہا جاسکتا۔

### 6. پانیدار:

تقریباً ہر نئے پروجیکٹ کی لاگت ہوتی ہے۔ یہ لاگت پروجیکٹ کے سائز اور نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ کسی ایسے منصوبے کی تجویز پیش کرنا، جس کے لیے مقامی حکومت کے پاس اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے، سرمایہ کے اخراجات کا ضیاءع ہو گا۔ متوقع چلنے والے اخراجات اور مقامی حکومت کے وسائل کا محتاط اندازہ درست فیصلہ کرنے میں سہولت فراہم کرے گا۔

#### 7. خودا خصاری:

ایک اچھا ترقیاتی منصوبہ وہ ہو گا جو کسی اسٹینڈ لون قسم کی چیز کے بجائے موجودہ متعلقہ انفراسٹر کپر کے ساتھ گھل مل جائے۔ مثلاً: اگر کسی غاص گلی میں سیور ٹچ لائن پچھانے کو شہر اقصیٰ اعلاء کے کل سیور ٹچ سسٹم کے ساتھ اچھی طرح سے منلک کیا جاسکتا ہے تو یہ پورے کا ایک حصہ بن جائے گا۔ اسی طرح دائر پلائی کے پاسپ پچھاتے وقت، کھلی نالیوں کی تعمیر یا گلیوں کے فرش پر یہ غور کرنا مفید ہو گا۔

#### 8. جامع تجویز:

پروجیکٹ کی تجویز پیش کرنے سے پہلے چاہے کیوں تو نسل ہو یا غیر کہوئی بیڈ آر گنائزیر یعنی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس میں تمام ضروری تفصیلات موجود ہیں اور فیصلہ سازی کیٹھی کے لیے کافی جامع ہے۔

### ترقبیاتی منصوبے کی شاخت اور ترجیح کے لیے چیک لٹ

- یہ منصوبہ کسی فرد کی نہیں اکثریت کی ضرورت ہے۔
- اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس منصوبے سے زیادہ سے زیادہ آبادی کو فائدہ پہنچے۔
- پروجیکٹ کی شاخت ایک شراکتی عمل ہو ناچاہیے جو اکثریت ووٹ کو اہمیت دیتا ہے۔
- اتفاق رائے کے بعد منصوبوں کو عملی جامد پہنانے کے لیے حتیٰ شکل دی جائے۔
- اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یو نین کی مجموعی ترقی کی ضروریات انفرادی برادری یا گاؤں کی ضروریات پر فقیر رکھتی ہیں۔
- کوششوں کی پکار سے پہنچنے اور غیر ضروری اخراجات سے پہنچنے کے لیے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو آگاہ رکھا جائے۔
- پروجیکٹ کی شاخت ملے شدہ پیر امیر زار علاقوں کے اندر کی بانی چاہئے۔
- اپنے وسائل کے اندر قابل عمل پروجیکٹ کا انتخاب کریں۔
- ..... مخصوص مقامی حالات کو پورا کرنے کے لیے غور و فکر

## ترقیاتی منصوبوں کی پلانگ اور منظوری کا طریقہ کار<sup>8</sup>

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ہر مقامی حکومت کا سربراہ عہدہ سنبھالنے کے چھ 6 ماہ کے اندر</li> <li>• آئندہ چار 4 سال</li> <li>• مقامی علاقے کی ترقی</li> <li>• پنجاب حکومت کے جاری کردہ طریقہ کار اور اصول و ضوابط کے تحت</li> <li>• ہر مالی سال کے آغاز سے پہلے، ہر مقامی حکومت کا سربراہ اسے سالانہ ترقیاتی میں منظوری بخینہ شامل کرے گا۔</li> <li>• ہر مقامی حکومت اپنے چار سالہ مقامی ترقیاتی منصوبہ کے ڈرافٹ کی روشنی میں سالانہ ترقیاتی منصوبہ تیار کرے گی۔</li> <li>• مقامی علاقے کی ترقی کے سلسلے میں مقامی حکومت کے مقاصد</li> <li>• ترقیاتی اہداف کے حصول کے لئے حکومت عملی اور اس کو باجھنے اور اس کی بھگانی کے لئے اعتماد یہ اثنا بیکھڑ اور؛</li> <li>• وسائل کا پلان جس میں مالی مقاصد اور دیگر وسائل بیان کیے گئے ہیں جو طے کردہ مقاصد کے حصول کے لئے درکار ہوں اور یہ وسائل مقامی حکومت کو کس طرح سے دستیاب ہوں گے؟</li> <li>• کو اسکر، تکمیر، پیچفت آفیسر، کو اسکی قرارداد کے ذریعے مقامی علاقے کا کوئی بھی رہائشی ایک پنجاہیت یا پڑوسی کو اسکل جو متعلقہ مقامی علاقے میں واقع ہو؛ اور حکومت کے آرڈر کے ذریعے۔</li> <li>• تیار کی جاگی اور متعلقہ مقامی حکومت کے چیف آفیسر کو پیش کی جائی۔ ہر جو چیز مقرر رہ فارم پر کسی بھی نئی یا موجودہ سہولت کی تغیری و بحالی، مرمت یا تجدید کی لاغت حکومت کی وفاوف قاتلے کردہ حد سے زیادہ نہیں ہو گی۔</li> <li>• مقامی حکومت کے سربراہ سالانہ ترقیاتی منصوبے کا مودودہ اجلاس عام میں کو اسکل کے سامنے پیش کریں گے۔</li> <li>• کو اسکل میں موجود کو نسلرزی سادہ اکثریت نظر ثانی کا فیصلہ یا منظوری دی سکتی ہے</li> <li>• جہاں مقامی حکومت کے سربراہ کی نظر میں، کو اسکل کے ذریعہ سالانہ ترقیاتی منصوبے کے مسودے پر نظر ثانی قانون کے مطابق نہیں ہے یادوں سری صورت میں نامناسب ہے، وہ ایک بار پھر وہی منصوبہ تبدیلی یا کسی بھی تبدیلی کے بغیر اجلاس عامہ میں پیش کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کو اسکل کو اختیار رہے کہ وہ کو نسلرز کے سادہ اکثریت سے اس کی منظوری دے یا پھر کو نسلرز کے دو تہائی اکثریت کے ساتھ اس پر دوبارہ نظر ثانی کا کبھی یا اسے یکسر مزدود کر دے۔</li> <li>• مقامی حکومت کے سربراہ کا پیش کردہ سالانہ ترقیاتی منصوبہ جسے دو تہائی اکثریت سے کو اسکل نے نظر ثانی یا مسزدہ کیا ہوا ہے منظور سمجھا جائے گا۔</li> <li>• اگر مالیاتی سال شروع ہونے کے تیس 30 دن کے اندر کسی مقامی حکومت کے سالانہ ترقیاتی منصوبے منظوری نہیں دی جاتی تو صوبائی حکومت، مقامی حکومت کے متعلقہ سربراہ کی شروعیات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود سالانہ ترقیاتی منصوبہ تیار کرے گی جو مقامی حکومت کا منصوبہ سمجھا جائے گا</li> <li>• مقامی حکومت کی جانب سے کسی بھی تعییر یا دیگر کام یا سرگرمی کو اس وقت تک شروع نہیں کیا جائے لاجب تک کہ اسے سالانہ ترقیاتی منصوبے میں شامل نہ کیا جائے اور متعلقہ ضلع کے لوگ پلانگ بورڈ نے اس کی منظوری نہ دی ہو۔</li> <li>• کسی بھی تعییر یا دیگر کام یا سرگرمی کو مقامی منصوبہ بندی بورڈ کے ذریعہ منظوری نہیں دی جاتی ہے جب تک کہ وہ حکومت کے ذریعہ تعین کردہ منصوبہ بندی کے متعلقہ اہم اصولوں کو پورا کرتا ہو۔</li> </ul> | <p><b>کون</b></p> <p><b>مدت</b></p> <p><b>مقصد</b></p> <p><b>طریقہ کار</b></p> <p><b>کب:</b></p> <p><b>اصول و ضوابط</b></p> <p><b>منصوبے کی تجاویز</b></p> <p><b>منصوبے کا آغاز</b></p> <p><b>سالانہ ترقیاتی منصوبے کی منظوری</b></p> <p><b>ترقیاتی کاموں کی تجاویز کی شروعات</b></p> |
|---|---|

<sup>8</sup> Punjab Local Government Ordinance 2021, Chapter XXVII

## ترقیاتی منصوبہ بندی کے رہنماءصول<sup>9</sup>

چھ 6 ماہ کے اندر اندر، حکومت سرکاری گزٹ میں ایک آڈر کے ذریعہ، تغیراتی یادیگر کاموں یا سرگرمیوں کی منظوری کے لئے منصوبہ بندی کے رہنماءصول جاری کریں۔ منصوبہ بندی کی رہنماءصولوں میں شامل ہو گا:

|   |   |
|---|---|
| <b>اصول نمبر 2</b><br>منصوبوں کی پائیداری، لاگت کا تجھیہ اور ممکنہ معاشری اور معاشرتی فوائد کا طے کرنا  | <b>اصول نمبر 1</b><br>مختلف مقامی حکومتوں کے ذریعہ کیے جانے والے کام، قدریا کام کی نوعیت یا دیگر سرگرمی کا تعین                         |
| <b>اصول نمبر 3</b><br>ہر رہنماءصول جاری ہونے کی تاریخ کے بعد تین مالی سالوں کے لئے لاگر ہے گا جب تک کہ حکومت کی طرف سے اس میں ترمیم ہیا اس کو تبدیل نہ کر دیا جائے۔ | <b>اصول نمبر 4</b><br>ایک یا زیادہ ماہر افراد کی نشاندہی تاکہ منصوبہ بعلت شدہ اصولوں اور اہداف کے مطابق مقرر کردہ وقت میں مکمل ہو سکیں۔ |

<sup>9</sup> Punjab Local Government Ordinance 2020, Section 170


## **سیشن 6**

**مکانی حکومت کے فنڈز**

## سالانہ ترقیاتی منصوبے کی فنڈنگ

نئے منصوبوں کے لیے فنڈنگ کا بڑا حصہ منظور شدہ یونیورسٹی سے آتا ہے۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔

- اپنی آمدنی کا ذریعہ
- نئی ٹکسٹس جاواہز
- موجودہ اخراجات کے علاوہ مالیاتی منتقلی۔
- صوبائی حکومت یا کسی اور ذریعے سے ترقیاتی گرانٹ۔
- کسی دوسری مقامی حکومت کے ذریعے منتقل کی گئی رقم
- کمیونٹی کی شرکت




### یونیورسٹی کے آمدنی کے ذریعہ

یونیورسٹی کی سطح پر، کچھ ٹکسٹس میں جوان تنقیمیہ کے ذریعے جمع کیے جاسکتے ہیں اور پھر یونیورسٹی کی سطح پر کوئی منظوری سے خرچ کیے جاسکتے ہیں، یہ ہے:

- پیشوں اور پیشوں کے لائنس کے لیے فیس
- مویشی منڈیوں میں جانوروں کی فروخت پر مویشی
- مارکیٹ فیس
- پیدائش، شادی اور موت کی تصدیق کے لیے فیس۔
- یونیورسٹی کی طرف سے پیش کی جانے والی مخصوص خدمات کے چار جز۔
- گاؤں اور پڑوس کے مخالفوں کے معادنے کی شرح (جہاں قابل اطلاق ہو۔)
- عوامی افادیت کے کسی بھی کام جیسے عوامی مقامات کی روشنی، نکاسی آب، تحفظ اور پانی کی فراہمی کے لیے ریٹ

## مقامی محسولات کا موثر استعمال



یونین کی آمدی کو مقامی استعمال میں ڈالنے کی مثالیں۔

مرکوزی سلیکٹری جناب غفار غان نے یونینز کے دائرہ اختیار میں آنے والی دا انوں سے ایک مالی سال میں 30 لاکھ روپے ٹریڈ فیس وصول کی۔ رقم یونین اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی اور ضلع کو نسل کو بتایا گیا کہ کل رقم یونین کے دائرہ اختیار میں صفائی پر خرچ کی جائے گی۔ صفائی تحرانی میں بہتری کے نتیجے میں کھلے اور گندے نالوں میں پیدا ہونے والے مچھروں کی وجہ سے متعدد بیماریوں کے پھینے کے واقعات میں کمی آئی ہے۔

یونین انتظامیہ، ضلع سیال آباد نے 20 لاکھ روپے سے زائد پیسے جمع کیے ہیں۔ مویشی میلوں کے دوران منڈی مویشیوں کے طور پر گزہ چہ ماہ کے دوران کسانوں اور مددوروں کے لیے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے کچھ کمیکیں فراہم کرنے کے لیے ایک بخی ویٹر نریمن سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر اپنی خدمات مفت فراہم کیں جگہ کو نسل ادویات اور دیگر کا انتظام کرتی رہی۔ نتیجہ میں foot & mouth کی بیماری میں 80 فیصد کی آئی ہے اور جہاں سالانہ تقریباً 150 مویشی مر جاتے تھے، اس سال بلاکتوں کی تعداد صفر رہی۔

کیا آپ نے بھی تلبجی ادا کیا؟

|                              |
|------------------------------|
| کیا آپ نے بھی تلبجی ادا کیا؟ |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |

## مکانی حکومت کے قندز<sup>10</sup>

نئے پر اجیکٹس اور منصوبوں کے لیے قندزگ کا بڑا حصہ منتظر شدہ یونیورسیٹی سے آتا ہے جس میں مقامی حکومت کا اپنا ذریعہ آمدن (ٹیکس، فیس، جرمائی) کے علاوہ مالیاتی منتقلی، صوبائی حکومت یا کسی دوسرے ذریعے سے ترقیاتی گرائیں اور کسی دوسرے مقامی ذریعے سے منتقل کی گئی رقم شامل ہیں۔

| فیس   | ٹولز  | ٹیکس  |
|---|---|---|
| منافع   | کرایہ   | مقامی حکومت کے تحت عائد جرمائی  |
| دیگر ذرائع سے دی گئی گرانٹ  | محصولات کے قندز   | شرح یا چار جز   |
| غیر منتقلہ جانبی ادارے سے قابل ادار قوم   | مقامی حکومت کا مقامی قندز مہانہ بنیادوں پر                | ضبط بآرڈوں یا ایبلوں سے حاصل ہونے والی  |
| دوسری مقامی حکومت کے ذریعے منتقل کی گئی رقم   | انفرادی بآرڈوں کی طرف سے تھانک، گرائیں یا تعاون           | کسی بھی سرمایہ کاری سے آمدی یا کوئی دوسرے منافع                                       |
|   | مقامی حکومت کی طرف سے موصول ہونے والے قابل والہی ڈپارٹمنٹ | مقامی حکومت کے زیر انتظام یا زیر انتظام ٹرست سے حاصل ہونے والی رسید                   |
| آمدی کے دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدی جو حکومت کی ہدایات کے تحت مقامی حکومت کے اختیار میں رکھی جاتی ہے۔ |   | حکومت پنجاب فائنس کیشن ایوارڈ میں مقامی حکومت کے حصہ کی ٹکل میں مقامی حکومت کی گرائیں |

### مقامی حکومت کے قندز کا انتظام

ہر مقامی حکومت مندرجہ بالا ذرائع سے مقامی حکومت کو حاصل ہونے والے تمام محصولات کو جمع کرنے کے لیے ایک پیک اکاؤنٹ بنانے گی اور اس کی منظم انتظام کاری کرے گی۔

<sup>10</sup> Punjab Local Government Ordinance 2020, Section 72-74

## موجودہ اور ترقیاتی اخراجات میں فرق

ترقبی اخراجات سے مراد ترقیاتی منصوبوں پر کوئی بھی خرچ ہے (ترقبی منصوبے وہ یہی جو ترقیاتی بجٹ کے ذریعے شروع کیے جاتے ہیں اور خاص فارم پر تیار کیے جاتے ہیں)۔ یا نئی تعمیرات پر کوئی بھی خرچ پا ہے مکمل طور پر نئے کام ہوں یا موجودہ کاموں میں اضافے اور تبدیلیاں ہوں۔ اس میں نئی خریدی گئی یا پہلے ترک کی گئی عمارتوں یا ان کو استعمال میں لانے کے لیے درکار کاموں کی تمام مرمت بھی شامل ہے اور اس کا مطلب عمارتوں کو مناسب حالت میں برقرار رکھنے اور عام استعمال میں کام کرنے کے لیے کیے گئے آپریشنز پر خرچ کرنا ہے۔

| ترقبی اخراجات  | موجودہ اخراجات  |
|--|---|
| فریکل اشاجات کے حصول، تعمیر یا اضافہ کے مقصد کے لیے یا سرمائے کے اخراجات کی اسکیوں پر پروجیکٹ کی بنیاد پر ایک وقت (ضروری نہیں کہ ایک سال) اخراجات۔ | یہ ریاستی کاموں کی کارکردگی پر خرچ کیا جاتا ہے، یعنی سماجی، اقتصادی اور معاشرتی خدمات کی فراہمی، امن و امان کی بحالی، عمومی انتظامیہ، سامان اور خدمات کو بدل دینا، عوامی مقاصد کے لیے انجاماتے گئے قرضوں پر سود کی ادائیگی۔ |

## سیشن 7

کرپشن، شفافیت اور جوابدی

## کرپشن اور شفافیت

گلڈ گورننس کا ایک اہم عنصر بد عنوانی کو کم کرنا اور شفافیت کو بڑھانا ہے۔ قلیتوں کے خیالات کو مد نظر رکھتا ہے اور فیصلہ سازی میں معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور لوگوں کی آواز کو یقینی بناتا ہے:

کرپشن کیا ہے؟

**"نجی فائدے کے لیے سونپی گھنی طاقت کا غلط استعمال۔"**

(Transparency International)

شفافیت کیا ہے؟

"شفافیت" کو ایک اصول کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے جو انتظامی فیصلوں، کاروباری لین دین یا خیراتی کاموں سے متعلق ہونے والوں کو نہ صرف بنیادی حقائق اور اعداد و شمار بلکہ طریقہ کار اور عمل کو بھی جانتے کی ابانت دیتا ہے۔ یہ سر کاری ملازم میں، میں بھر زا اور ٹریئن کافر خیں ہے کہ وہ ظاہر، پیش گوئی اور سمجھ بوجھ سے کام کریں۔

"قانون میں رہتے ہوئے" بد عنوانی اور "قانون کے غلاف" بد عنوانی میں فرق:

| قانون میں رہتے ہوئے   | قانون کے غلاف  |
|---|--|
| سہولت کی ادائیگی، بہاں رشوت کی ایسی چیز کے لیے تین گھنی سلوک حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے جو وصول کنندہ کو درحقیقت قانون کے مطابق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سابقہ کو نیکی دیتے ہیں۔ | یہ ایسی خدمات حاصل کرنے کے لیے دی گھنی رشوت ہے جو وصول کنندہ کو قانون کے مطابق کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ |

کرپشن کی اقسام اور اثرات؟

| سیاسی   | اقتصادی   |
|---|---|
| سیاسی مخاذ پر کرپشن، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جمہوری نظام میں، دفاتر اور ادارے اپنی قانونی جیشیت کھو دیتے ہیں جب ان کا ذاتی فائدے کے لیے غلط استعمال ہوتا ہے۔ احتسابی سیاسی قیادت کر پڑتے ماحول میں ترقی نہیں کر سکتی۔  | معاشری طور پر کرپشن قومی دولت کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ یہ اکثر قیل عواید وسائل کو غیر اقتصادی ہائی پروفائل پروٹکٹس، جیسے ڈیپاپر پلاٹس پا اسپ لائز اور ریفارمیوں کو کم شاندار لیکن زیادہ ضروری بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں جیسے کہ سکول، ہسپتال اور سرکوں کی قیمت پر پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں بھلی اور پانی کی فراہمی، مزید برآں، آزاد منڈی کی معیشتوں میں یہ منصفانہ مارکیٹ کے ڈھانچے کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے اور مبالغت کو بکاری ہے، اس طرح سرمایہ کاری کو روکتی ہے۔                           |
| سمائی   | ماحولیاتی   |
| معاشرے کے سماجی تانے بانے پر کرپشن کا اثر سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ سیاسی نظام، اس کے اداروں اور اس کی قیادت میں لوگوں کے اعتماد کو مجرور کرتا ہے۔ مایوسی کا شکار عوام میں مایوسی اور عام بے حسی کا تجہیز ایک کمزور سوں سوسائٹی کی صورت میں لکھتا ہے۔ اس کے تجہیز میں امراءوں کے ساتھ ساتھ جمہوری طور پر منتخب ہونے کے باوجود بے ایمان رہنماؤں کے لیے قومی ائماؤں کو ذاتی دولت میں تبدیل کرنے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ رشوت مائنگ اور دینا معمول بن گیا ہے۔ جو لوگ اس کی تعمیل کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ اکثر بھرت کر جاتے ہیں اور ملک و اس کے قابل اور ایماندار شہر یوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ | ماحولیاتی احتجاط بد عنوان نظاموں کا ایک اور تجہیز ہے۔ ماحولیاتی ضوابط اور قانون سازی کی کمی یا ان کے نفاذ نے تاریخی طور پر شمال کو اپنی آسودگی پھیلانے والی صنعت کو جزو میں برآمد کرنے کی ابانت دی ہے۔ ایک ہی وقت میں، لکڑی اور معدنیات سے لے کر ہاتھیوں تک، ملکی اور مین الاقوامی ایمنتوں کی طرف سے قدرتی وسائل کا بے پرواہ تھمال قرتی ماحول کو تباہ کرنے کا باعث بناتے۔ ماحولیاتی طور پر تباہ کن منصوبوں کو فنڈنگ میں ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ یہ عوام کے پیسے کو بھی جیبوں میں ڈالنے کے لیے آسان ہدف ہوتے ہیں۔ |

کر پشن سے کیسے نتیجاتے۔

دنیا بھر میں انداد بد عنوانی کے پروگراموں میں مختلف عناصر شامل ہیں:

- انتظامی اور ادارہ جاتی اصلاحات بنانا
- قانونی پابندیاں اور متحرک پولیسیاں بنانا
- ریگولیٹری نظام کی تشكیل دینا
- انتخابات، عوامی انتظامیہ، خدمات کی دستیابی میں شفافیت کو فروغ دینے کے لیے حکومت، سول سماں تھی، کاروبار اور میڈیا کے متعلقہ لوگوں کو اٹھا کرنا۔
- ہر سال CPI شائع کرنا
- معلومات کی آزادی/ اطلاعات تک رسائی سے متعلق قانون سازی کرنا
- ایک آزاد پریس، تحقیقاتی صحافت اور آزاد مصنفوں کو متعارف کرنا
- دستاویزات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ریکارڈ کا انتظام کرنا
- اخلاقی معلومات اور موافقی ٹیکنالوجی کو فروغ دینا
- ذاتی رازداری، سرکاری اور تجارتی رازداری پر صحت مند بحث کرنا
- معلومات تک رسائی کو فروغ دینے والے ذرائع کی ترویج کرنا

## مقامی حکومت میں شفافیت<sup>11</sup>

آرڈیننس کے تحت کوئی بھی ڈیپلائی انجام دیتے ہوئے یا کسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہ مقامی حکومت کے ہر منتخب ایکارچیف آفسر، افسر، اور ملازم کا فرض ہو گا  
کہ۔۔۔

### طرز عمل کے عمومی اصول



- ایمانداری منصفانہ اور شفاف طریقے سے کام کرنا
- مناسب دیکھ بھال اور تندی سے کام کرنا
- اپنے دفتر یا شخص کے لیے بلاستہ یا بلا واسطہ فائدہ حاصل کرنے سے اجتناب کرنا
- اپنے دفتر سے حاصل کردہ معلومات کا غلط استعمال نہ کرنا
- بلاستہ یا بلا واسطہ مالیاتی یا کسی اور نصان میں مبتلا نہ ہونا

### مفادات کا تصادم



- کسی منتخب ایکارچیف آفسر، افسر یا مقامی حکومت کے ملازم یا کسی دوسرے شخص کو کسی معابرے، مجوزہ معابرے میں غیر قانونی معادنہ فراہم کرنا
- قریبی رشتہ دار، آجر یا ملازم کی معابرے میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ مالیاتی یا کوئی اور فائدہ پہنچانا۔
- بلا واسطہ یا بلا واسطہ مالیاتی یا کوئی اور نصان میں شامل ہونا۔
- بلا واسطہ یا بلا واسطہ مالیاتی یا دوسرے فرائض کی کار کردگی پر اضافہ ہونا۔
- ایک شخص جس کے مفادات کا بغڑا ہے دو معابرے، مجوزہ معابرے یا کسی دوسرے معاملات کی صدارت نہیں کرے گا

### ضابطہ اخلاق




- ضابطہ اخلاق کی ایک نقل عام دفتری اوقات کے دوران مقامی حکومت کے دفتر میں معابرے کے لیے عوام کو فراہم کرنا
- اخلاقی طرز عمل کے معیارات قائم کرنا
- تازیات کے حل کے لیے مناسب طریقہ کار منتخب کرنا
- ملازمین اور ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔

<sup>11</sup>Punjab Local Government Ordinance 2022, Chapter XXV

## مقامی سطح پر شکایات کا نظام اور جوابدی

ایک طریقہ کار جو ہمیں کوئی نسلوں کو کسی خاص عملے ایجمنٹ اور غدمت اعوامی بھلائی کے خلاف درج کی گئی شکایات یا شکایات کو حل کرنے کے لیے موثر کارروائی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یونین انتظامیہ بھی ایک میل قائم کر سکتی ہے، جہاں شہری اپنی شکایات درج کر سکیں۔

معتمد ترقیاتی منصوبوں اور خدمات کی فراہمی سے متعلق شکایات اور ان کا ازالہ



معتمد حکومت سے ناراض کوئی بھی شخص اپنی شکایت (تیس دن کے اندر) اور اپسیل دائر کر سکتا ہے۔  
عوام کی تمام شکایات مہانہ کی بنیاد پر جھگٹائی جاتی ہیں۔

## 8 سیشن

شرکت داری اور رابطہ سازی

## شرکت داری اور رابطہ سازی

یونین کو نسل بھی دوسراے ادراے کی طرح ہوتی ہے۔ کسی بھی ادارے کے جوابدہ اور مواثقہ ادراے کے جوابدہ اور معاقدات پر جو چیز لاگو ہوتی ہے وہ یونین کو نسل پر بھی لاگو ہوتی ہے: کرداروں اور ذمہ داریوں کی واضح تقسیم، کام کے طبقہ طریقہ کار، فائدہ اٹھانے والوں کی ضروریات اور ضروریات کے مطابق خدمات کی منصوبہ بنی اور تشكیل، جوابدہ مالیاتی انظام، کام کی شفافیت، عملی کی ترقی، اچھا مواصلہ، فراہم کردہ خدمات سے فائدہ اٹھانے والوں کے اطبان کا پتہ لگانا، غیرہ۔ سیاست دان، سرکاری ملازمین اور دیگر عوامی اداروں جیسے یونین کو نسل، کمپنیاں، این جی اوز اور مقامی کمیونٹیز بھی قابلِ اعتماد حکومت میں شرکت داریں۔ اعتماد اور اعتبار کسی بھی رشتہ، شرکت داری یا نیٹ ورک کی مستقل خصوصیت ہے۔

### مقامی کمیونٹی کے ساتھ شرکتی روابط

مقامی کمیونٹی (شہری) اور حکومتی مختلف ہمتوں میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شہری وہ کلانٹ ہے جو خدمت کی فرائی پر اعلیٰ تقاضے رکھتا ہے۔ شہری وہ ووڑ بھی ہے جو اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب نمائندوں کے ساتھ اعتماد کے رشتے میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ مزید برآں، شہری پالیسی کا شریک پر وڈیو سر بھی ہے۔ مقامی انتظامیہ باقاعدگی سے شہریوں سے شرکت کے ساتھ پالیسی بنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔

|                                     |  |                               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| خدمات مہیا کرنے والے (یونین کو نسل) |  | مقامی شہری                    |
| منتخب نمائندے                       |  | ووڑ                           |
| پالیسیوں بنانے والے                 |  | پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے والے |

### شہری اور حکومتی تعلق کو کیسے مضبوط کیا جائے

یونین کو نسل کے کام میں شفافیت بڑھائی جائے۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ خدمات کے صارفین کے پاس معلومات اور دستاویزات دستیاب ہوں۔

شہریوں کی ان کی ضروریات کے مطابق منصوبہ بنی اور خدمات کی تشكیل کے عمل میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ طریقہ کار کو لاگو کرنے اور طریقہ کار کی باقاعدہ نگرانی اور تشخیص کے لیے طریقہ کار وضاحت کریں۔

سول اور بیجی شعبوں کے ساتھ مضبوط شرکت داری قائم کریں۔

مقامی خود حکومت میں انتظامیہ، منتخب نمائندوں اور ملازمین کے ذمہ دار اور یہ کو یقینی بنائیں، جو اخلاقی اصول اور معیارات کے مطابق ہوں۔

### مقامی اداروں سے روابط

کمیونٹی کو حقوق کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے اداروں کے درمیان مضبوط رابطہ اور تعلق، کمیونٹی کو ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خدمت کرنا، ان کی قائمہ امن صلاحیتوں کی تعمیر اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا لوگوں نے ایک کمیونٹی کے تخت کمیونٹی ڈیپمنٹ کے حکومتی نظریہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان اداروں کے درمیان تعلق اور ربط کا انہما اس طرح کیا جاسکتا ہے:

یونین کو نسل کے اس تعلق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے، مثال کے طور پر:

- مشترکہ مقصد یا مقصد کے ساتھ آزاد افرادی اداروں کی ایسے شرکت جس کے ارکان وسائل میں حصہ ڈالتے ہیں اور دو طرفہ تبادلے یا مواصلات میں حصہ لینا۔
- بنیادی کاروبار مصنوعات کی تیاری یا خدمات کی فرائی سے براء ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، سماجی سدھار، مواصلات کو یقینی اور بامعنی بنانا۔
- ایک دوسرے کی تحقیق اور مواصلات کی صلاحیت کو مضبوط بنانا، علمی بنیادوں کو باہمی اور فیصلہ سازوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور حل تیار کرنے کے لیے ماہر اداروں یا افراد کے ساتھ ملکر کام کرنا۔
- ایک نیٹ ورک کو نیٹ ورک اس وقت کہا جاسکتا ہے جب نیٹ ورک میں شامل افراد کے درمیان تعلقات رخما کاراہ طور پر استوار ہوں، شرکاء کی خود مختاری برقرار رہے اور سرگرمیاں باہمی یا مشترکہ ہوں۔

## نیٹ ورک اور روابط کی کلیدی خصوصیات

|   |   |
|---|---|
| <p><b>ممبروں کے مابین تعامل اور تبادلہ</b></p> <p>مختلف سرگرمیاں شمولیت جیسے معلومات اور معلومات کا اشتراک یا مشترکہ اقدامات میں شامل ہونا، جو نیٹ ورک کے اپدافت کے حصول میں معاون ہوں۔</p> | <p><b>مشترک اپدافت اور اقدار</b></p> <p>مشترک اپدافت اور اقدار جو نیٹ ورک کے ممبران اپنے ساتھ لاتے ہیں۔</p>   |
| <p><b>شرکاء کی خود مختاری</b></p> <p>نیٹ ورک کے ممبران آزاد ادارے ہیں جن کی اپنی شاخت اور مشن ہوتا ہے۔</p>  | <p><b>رضا کارانہ شرکت</b></p> <p>تلیمیں اور افرادیہ فیصلہ کرنے کے لیے آزادیں ہیں کہ نیٹ ورک میں کب شامل ہونا ہے اور کب چھوڑنا ہے یا وہ گورنمنٹ اور سرگرمیوں میں کتنا شامل ہونا چاہتے ہیں۔</p> |
| <p><b>عدل کا عزم</b></p> <p>نیٹ ورک میں تمام ممبران کے ماتحت عدل اور انصاف کا معماملہ کیا جاتا ہے۔</p>  | <p><b>غیر درجہ بندی کا ذہنی خواجہ</b></p> <p>نیٹ ورک کا ایک مرکز ہو سکتا ہے جو نیٹ ورکنگ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔</p>   |


## نیٹ ورک اور روابط کے فوائد

بھی تنظیموں یا افراد کے علم اور وسائل کو جمع کرنے سے نیٹ ورک کے ممبران کے لیے بھی فوائد ہو سکتے ہیں، مثلاً

|  |  |
|--|--|
| <p><b>اویں اضافہ اور ہتھی</b></p> <p>نیٹ ورک میں شرکت ممبروں کے اپدافت اور مقاصد کے حصول میں سہولت فراہم کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، نیٹ ورک ممبروں کو ابانت دیتے ہیں کہ وہ اپنی آواز کو بڑھادیں، سروں فراہم کرنے والے اپنی خدمات کے معیار کو بہتر بنائیں، اپنے پروگراموں کے معیار کو بڑھاتے ہیں اور جب وہ نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔</p> | <p><b>کارکردگی میں اضافہ</b></p> <p>یکھے گئے اباق اور ایچے طریقے تنظیموں کے اخربات کو کم کر سکتے ہیں۔</p>  |
| <p><b>نیٹ ورک میں اضافہ</b></p> <p>مل کر کام کرنے سے تنظیمیں و سعی میں تک پہنچ سکتی ہیں، جس سے ان کے کام کی نمائش میں اضافہ ہوتا اور وہ مسائل جن پر وہ کام کر رہے ہیں اس کی تشویش کا سبب بنتا ہے۔</p>  | <p><b>ماکھی میں اضافہ</b></p> <p>چونکہ بہت سے نیٹ ورک کی رکنیت کے لیے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ان کی اقدار، تحریکی اور کام کے علاقے کے حوالے سے، نیٹ ورک میں شرکت سے پہنچتا ہے کہ تنیم ایک قابل اعتماد پارٹنر ہے۔ اس سے پالیسی سازوں، ڈونز اور نئی شرکت داری کے دروازے کھل سکتے ہیں۔</p> |
| <p><b>بھرتی سماجی سرمایہ</b></p> <p>دوسری تنظیموں اور افراد کے ماتحت قائم کردہ ایچے روابط جو کہ اسی قدر اور اپدافت کا اشتراک کرتے ہیں نیٹ ورک کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی ہیں اور ممتنعب کے اقدامات کے لیے ایک ویلہ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔</p>   | <p><b>بھرتی سماجی سرمایہ</b></p> <p>نیٹ ورکنگ کے ذریعے، تنظیمیں دنیا بھر میں، ایسا بھی دور راز مقامات پر بھی شرکت داروں کے علم اور وسائل تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔</p>  |

## اداروں سے ملاقات اور روابط کا سوالنامہ

پارٹر کی کمی اقسام دی گئی ہیں جن کے ساتھ ملک آپ کو کام کرنا ہو گا۔ ہمیں سوچنا پا سیے کہ ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے کون ساطریقہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور کون سی معلومات اور اطلاعات و سبب امن نیٹ اور متعلقہ کمیوٹیٹر کیلئے مفید اور کار آمد ہوگی۔ ہر پارٹر کے پاس معلومات کا ایک مختلف مجموعہ ہوتا ہے جو آپ، آپ کے نیٹ ورک اور آپ کی کمیوٹی کے لیے قیمتی ہوتا ہے۔ کسی ساتھی سے ملنے سے پہلے، آپ کے پاس چیک لٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ متعلقہ شراکت داروں یا سینکڑ ہولڈرز سے معلومات کی سطح اور قسم ایکجی کی باری ہے۔



بامقصد ملاقات

اداروں سے مخصوص معلومات جمع کرنے کے لئے مندرجہ ذیل فریم ورک استعمال کیا جاسکتا ہے۔

# اضافی مواد

## یونین کو نسل کے عمومی فرائض اور ذمہ داریاں<sup>12</sup>

|  |   |  |
|--|---|--|
| یونین کو نسل کے بحث کی منظوری  | (a)    | approve the budget of the Union Council  |
| یونین کو نسل کو تفویض کر دے، جیسی مالیاتی و مصوبی کی منظوری  | (b)    | approve the levy of tax or fee assigned to the Union Council   |
| بچپنیت یا مصلحت انجمن کے ادائیگان کو نامزد کرنا اور بچپنیت یا مصلحت انجمن کی کارکردگی کی مکاری کرنا۔   | (c)    | nominate members of the Panchayat or Musaliyat Anjuman and monitor the performance of the Panchayat or Musaliyat Anjuman   |
| عوامی راست، عوامی سڑکیں، عوامی کھلی چھوٹیں، قبرستان، عوامی باغات اور کھیل کے میدان فراہم کرنا، بہتر بنانا اور برقرار رکھنا   | (d)    | provide, improve and maintain public ways, public streets, public open spaces, graveyards, public gardens and playgrounds  |
| عوامی راستوں، عوامی سڑکوں اور عوامی مقامات پر روشنی کا انتظام کرنا   | (e)   | arrange lighting of public ways, public streets and public places  |
| کمیونٹی کو متحک کرنا:<br>عوامی راستوں، عوامی گلیوں، بلوں، پلوں، عوامی عمارتوں اور مقامی نالوں کی دیکھ بھال کے لیے؛<br>یونین کو نسل میں درخت لگانے، لینڈ سکینگ اور عوامی مقامات کی خوبصورتی کے لیے۔<br>(iii) عوامی راستوں، گلیوں اور چھوٹوں پر تجاذبات کی روک تھام اور جہانتے کے لیے۔ | (f)  | mobilize the community:<br>(i) for maintenance of public ways, public streets, culverts, bridges, public buildings and local drains;<br>(ii) for plantation of trees, landscaping and beautification of public places in the Union Council;<br>(iii) for prevention and removal of encroachments on public ways, streets and places. |
| دیہی و اڑپالائی سکیوں اور پینے کے پانی کے عوامی ذرائع، شمول کنوں، واٹر پمپ، نیک، تالاب اور پانی کی فراہمی اور کھلے نالوں کی فراہمی اور ان کی دیکھ بھال   | (g)  | provide and maintain rural water supply schemes and public sources of drinking water, including wells, water pumps, tanks, ponds and other works for the supply of water and open drains   |
| دیہی و اڑپالائی سکیوں اور بیوریج کی مقررات طریقے سے مناسب دیکھ بھال کے لیے کمیونٹی تیکیوں کے ساتھ، ہم آئندی پیدا کرنا  | (h)  | coordinate with the community organizations for proper maintenance of rural water supply schemes and sewerage in the prescribed manner   |
| موشیوں کے پاؤ ٹھہر قائم کریں   | (i)  | establish cattle pounds  |
| چڑاگاہوں، مشترکہ ملاقات کی گلیوں اور دیگر مشترکہ املاک کا انتظام اور دیکھ بھال   | (j)  | manage and maintain grazing areas, common meeting places and other common property   |

<sup>12</sup> As per PLGA 2022

|   |   |   |
|---|---|---|
| میلوں اور تفریجی سرگرمیوں کا انعقاد   | (k)    | hold fairs and recreational activities  |
| یونین کو نسل میں تخفیف کی خدمات فراہم کریں  | (l)    | provide conservancy services in the Union Council   |
| پیدائش، اموات، شادیوں اور طلاقوں کے اندر ارجام کا انعقاد کریں اور یونین کو نسل میں پیدائش، اموات، شادیوں اور طلاقوں کے بارے میں ایسی معلومات ایسے افراد اور اداروں تک پہنچائیں جو تجویز کیے جائیں | (m)    | arrange for registration of births, deaths, marriages and divorces and pass on such information about births, deaths, marriages and divorces in the Union Council to such persons and institutions as may be prescribed |
| یونین کو نسل عوامی سہولت یا ایسی شرائط و ضوابط پر جو تجویز کیے گئے عوامی مرکوز قائم کرنے کے لیے پہلی بیٹھکی کی مدد کرنا   | (n)    | support a public sector agency to establish public facilitation centre in the Union Council for such purpose and on such terms and conditions as may be prescribed  |
| کسی بھی آگ، بیاب، ڈالہ باری، زلزلہ، وبا یا دیگر قریبی افات کی صورت میں امداد اور اقدامات کی حمایت کرنا اور امدادی سرگرمیوں میں متعلقہ حکام کی مدد کرنا  | (o)    | support relief measures in the event of any fire, flood, hailstorm, earthquake, epidemic or other natural calamity and assisting relevant authorities in relief activities  |
| مقامی کھیلوں کو فروغ دینا   | (p)    | promote local sports  |
| لائبریریوں اور پڑھنے کے کمرے فراہم کریں   | (q)  | provide for libraries and reading rooms   |
| یونین کو نسل کے باشندوں کی فلاخ و بہبود، صحت، حفاظت، راحت یا سہولت کو فروغ دینے کے لیے ممکنہ طور پر دیگر اقدامات کرنا   | (r)  | take other measures likely to promote the welfare, health, safety, comfort or convenience of the inhabitants of the Union Council;  |
| خدمات کی فراہمی میں کمیوں کی نشاندہی کرنا اور ضلع کو نسل، میونپل کارپوریشن یا میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو خدمات کی بہتری کے لیے سفارشات دینا  | (s)  | identify deficiencies in delivery of services and making recommendations for improvement of services to the District Council, Municipal Corporation or Metropolitan Corporation;  |
| ترقبی کاموں کو طے شدہ طریقے سے انجام دیں  | (t)  | execute development works in the prescribed manner  |
| ایسے اعداد و شمار اور اعداد و شمار کو برقرار کرنا جو تجویز کیا گیا ہو اور مفاد عامہ کے معاملات پر معلومات کو پھیلانا  | (u)  | maintain such statistics and data as may be prescribed and disseminate information on matters of public interest.   |

## یونین کو نسل کے اضافی فرائض<sup>13</sup>

شہری خصوصیات کی حامل یونین کو نسل، ضلع کو نسل کی مظہوری سے، اور حکومت کی پدایت پر درج ذیل کام بھی انجام دے سکتی ہے

- a) کسی بھی مقصد کے لیے سرکاری اور بخی شعبوں کے ذریعے زمین کے استعمال، زمین کی ذیلی تقسیم، زمین کی ترقی اور زونگ پر کنٹرول کا استعمال، بیشمول صنعت، تجارت کے بازار، خریداری اور روزگار کے دیگر مرکز، رہائشی، تفریح، پارکس، تفریح، مسافر اور ٹرانپورٹ فریٹ اور ٹرانسٹ ائیشن
- b) تمام میونپل قوانین، قاعد و ضوابط کو نافذ کرنا جو اس کے کام کو منظم کرتے ہیں
- c) سائن بورڈ اور اشتہارات کے چمپاں اور منظم کرنا
- d) میونپل انفارسٹریکچر اور خدمات فراہم کرنا، ان کو منظم کرنا، چلاتا، برقرار رکھنا اور بہتر بنانا، بیشمول
  - (i) پانی کی فراہمی اور پانی کے ذرائع کا کنٹرول اور ترقی
  - (ii) سیوریج اور سیوریج ٹرینمنٹ اور ڈپوزل
  - (iii) طوفان کے پانی کی نکاسی
  - (iv) صفائی تھراہی اور ٹھوس فضله جمع کرنا اور ٹھوس، مائی، صنعتی اور ہسپتال کے فضله کو ٹھکانے لکھنا
  - (v) سڑکیں اور گلیاں
  - (vi) سڑک کے نشانات، پارکنگ کی جگہیں، ٹرانپورٹ ائیشن، اسٹاپس اور پلک ٹرانپورٹ اسٹیشنز؛ (vii) اسٹریٹ لائنز
  - (viii) آگ بھاننا
  - (ix) پارکس، کھیل کے میدان، کھلی جگہیں اور باغبانی
  - (x) منبع خانے
- e) (e) تجاوزات کو روکنا اور بہثانا
- f) (f) خطرناک اور جارحانہ مضمایں اور تجارت کو منظم کرنا
- g) (g) مظہور شدہ ٹیکس، فیس، نرخ، کرایہ، ٹول، چارج، جرمانے اور جرمانے جمع کرنا
- h) (h) مارکیٹوں اور خدمات کو ریگولیٹ کریں اور لائنس جاری کریں، پر مٹ دیں، اجازت دیں اور ان کی خلاف ورزی پر جہاں اور جہاں قابل اطلاق ہو جرمانے عائد کریں
- i) (i) یونین کو نسل میں موجود جائیدادوں، ااثاٹوں اور قندز کا انتظام کرنا
- j) (j) اسکمینیں تیار کریں اور ان کا نظم کریں، بیشمول سائٹ کی ترقی
- k) (k) کسی افسر یا افسران کو کسی میونپل جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کو نوٹس جاری کرنے اور اس طرح کے جرم کو جاری رکھنے یا اس نوٹس میں درج پدایات کی تعمیل کرنے میں ناکامی پر قانونی کارروائی شروع کرنے کا اختیار دیں۔

<sup>13</sup> As per PLGA 2022

## کمیوٹی کو با اختیار بنانا اور متحرک کرنا

### (c) کمیوٹی پر مبنی تنظیمیں<sup>14</sup>(CBOs)

رجسٹریشن، آپریشنز، افسران کی ذمہ داریاں اور کمیوٹی پر مبنی تنظیم کی ایگزیکٹو ٹیکنالوژی، اس کے افسران اور ممبر ان کی ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔

| تفصیل  | نمبر | امن                         |
|--|------|-----------------------------|
| PLGA-2022 کے مطابق کمیوٹی پر مبنی تنظیم ایک غیر منافع حالت تنظیم ہے اور اس کی آمدی اور اٹائیے صرف اور صرف اس کے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔   | 1    | سی بی او کی قانونی<br>جیثیت |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ایک CBO رجسٹریشن اخراجی کے ساتھ رجسٹر ہو گا اور اپنے کاموں اور سرگرمیوں کو اس طریقے سے اور ایسے قوانین کے تابع کرے کا جو تجویز کیے گئے ہوں۔</li> <li>• PLGA-2022 کے مطابق، ہر مقامی علاقے میں، غیر منتخب شہریوں کے گروپ رعنایا کارانہ، فعال اور اپنی مدد آپ کے اقدامات کے ذریعے کمیوٹی پر مبنی تنظیمیں (CBOs) قائم کر سکتے ہیں۔</li> </ul>  | 2    | رجسٹریشن اور<br>اسٹبلشمنٹ   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ایک CBO کے پاس اس کے اراکین کی ایک جزبل بادی ہو گی جو اپنے کام انجام دینے کے لیے ایک صدر، ایگزیکٹو ٹیکنالوژی اور تنظیم کے جزبل سکریٹری کا انتخاب کرے گی۔</li> <li>• کوئی بھی شخص CBO قائم کرنے یا اس کارکن بننے یا CBO کے صدر یا جزبل سکریٹری کا عہدہ رکھنے کا اعلیٰ ہو گا۔</li> </ul> <p>سوائے درج ذیل کے:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ایک نابالغ شخص</li> <li>◦ ناقص دماغ کا شخص</li> <li>◦ قانون کو مطلوب شخص یا جس نے فیصلہ کے لیے درخواست دی ہو اور اس کی درخواست زیر التواء ہے۔</li> <li>◦ قانون کے تحت ڈیفالٹ ہے اور اس کا نام اس طرح شائع کیا گیا ہے۔</li> </ul> | 3    | تمثیل اور کمیتیں            |
| کمیوٹی پر مبنی تنظیم کے صدر، ایگزیکٹو ٹیکنالوژی اور جزبل سکریٹری کے عہدے کی مدت دو سال ہو گی جس میں جزبل بادی کی طرف سے اسی طرح کی مدت یا شرائط کے لیے انتخابات کے ذریعے توسعی کی جاسکتی ہے۔   | 4    | معززین کی مدت               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• اس طرح کے CBOs کو دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ، خدمات کی فراہمی میں ترقی اور بہتری کے لیے کمیوٹی کو متحرک کرنے، کسی نئی یا موجودہ عوامی سہولت کی ترقی اور انتظام، ترقی اور میونپل ضروریات کی نشاندہی، کمیوٹی کی شمولیت کے لیے اسکے ہولڈرز کو متحرک کرنے کے مقاصد کے لیے قائم کیے جائیں گے۔ سہولیات کی بہتری اور دیکھ بھال وغیرہ میں</li> </ul>   | 5    | مقصد اور فائدہ اٹھانے والے  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• CBOs معدود، بے سہارا، بیواؤں اور انتہائی غربت میں گھر انوں کی بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں۔</li> <li>• CBOs فارمز، مارکیٹنگ اور کنزیو مر کو آپریشنی قائم کر سکتے ہیں (بشرطیکہ گرانس PLGA-2022 کے لیشن 78 کے تحت دستیاب ہوں گی)۔</li> </ul>  | 6    | کلیدی اقدامات               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں، ایک CBO کمیوٹی ویلفیئر کے لیے رعنایا کارانہ ٹیکنالوژیوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔</li> </ul>   | 7    | شرکت داریاں                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• CBO کی جائیدادیں اور آمدی اس کی ایگزیکٹو ٹیکنالوژی کے نام پر کمی جائے گی اور رکھی جائے گی اور اس کی ایگزیکٹو ٹیکنالوژی</li> </ul>   | 8    | CBO کے اٹائے اور            |

14 (Section 129-140, Chapter XXIII, PLGA-2022, Punjab)

|   |   |
|---|---|
| <p>کے نام پر مقدمہ پڑایا جاتے گا۔ اس کی آمدنی کا کوئی حصہ تھوا، ڈیویڈ نہ، منافع یا بونس کے ذریعے ادا نہیں کیا جاتے گا یا بصورت دیگر اس کے کسی ممبر یا شراکت دار میں تقسیم نہیں کیا جاتے گا۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>جہاں کسی مقامی حکومت نے CBO کے کسی بھی اٹاٹے یا فڈری تخلیق میں تعاون کیا ہے، تخلیل یا ڈی رجسٹریشن کی صورت میں، اس کے اٹاٹے ایسی مقامی حکومت کو منتقل ہو جائیں گے اور اٹاٹے مقامی حکومت کی طرف سے کمیوٹی ویلفیر کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے۔ اپنی اینجنیوس میں سے کسی کے ذریعے یا اس سلسلے میں ایسی مقامی حکومت کے ذریعہ نامزد کردہ کسی دوسرے CBO کے ذریعے۔</li> <li>صدر اور جزل سکریٹری CBO کی جانبی ادا اور اشاؤں کی محفوظ تجویل اور انتظام کے ذمہ دار ہوں گے۔</li> </ul> | <p>آمدنی</p>                                      |
| <p>CBO کے اکاؤنٹس صدر اور جزل سکریٹری مشترک کہ طور پر پلاین گے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CBO کے تمام قندز بینک یا پوسٹ آفس میں رکھے جائیں گے اور تمام لین دین چیک کے ذریعے کیے جائیں گے۔</li> <li>سی بی او کے اکاؤنٹس سکریٹری کے ذریعہ برقرار رکھے جائیں گے۔</li> <li>جزل سکریٹری سی بی او کے سالانہ اجلاس میں اکاؤنٹس کا سالانہ اسٹیٹمنٹ پیش کرے گا اور اس کی منظوری کے بعد گوشوارے کو جسٹریشن اتحاری یا اس طرح کے دیگر اتحاری کو پیش کیا جائے گا جو کہ تین دن کے اندر یا اس میں بتائی گئی دوسری مدت کے اندر پیش کی جائے گی۔ کی طرف سے سی بی او کے اکاؤنٹس آڈٹ کے تابع ہوں گے جیسا کہ تجویز کیا گیا ہے۔</li> </ul>   | <p>CBO کے اکاؤنٹس</p> <p>9</p>                    |
| <p>کمیوٹی کے وسیع تر مفاد پر مجموعہ کیے بغیر اپنے اعلان کردہ مقاصد کے لیے رضا کارانہ عطیات، تھائف، عطیات، گرانٹس اور اوقاف کے ذریعے قندزاٹھے کیے جاسکتے ہیں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اس ایکٹ کی دفعات کے مطابق کسی بھی مقامی حکومت سے پرو جیکٹ پر مبتنی لاگت میں حصہ داری کی حمایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔</li> </ul>  | <p>CBOs کے ذریعے قندزاٹھے مجمع کرنا</p> <p>10</p> |
| <p>اگر کوئی CBOs ایکٹ کے مطابق اپنے افعال اور سرگرمیاں نہیں پلا رہا ہے، تو جسٹریشن اتحاری ایسے اختیارات اور افعال کے ساتھ ایڈمنیسٹریٹر کا تقرر کر سکتی ہے جو جسٹریشن اتحاری اپنے معاملات کو پلانے، اس کے اشاؤں کو سنبھالنے، اسے تخلیل کرنے، اتفاقاً کے لیے مناسب سمجھنے، نئے انتخابات یا کسی اور معاملے کو منٹانے کے لیے۔</p> <p>CBO اپنی جزل مینگ میں، غیر تسلی بخش کار کر دی یا بد انتظامی کی وجہ سے کسی بھی عہدیدار یا رکن کو قرارداد کے ذریعے ہٹا سکتا ہے۔</p>  | <p>CBO / افران کی تخلیل</p> <p>11</p>             |
| <p>CBO اپنی مینگوں میں تمام کاروبار کو منٹادے گا جن کی صدارت صدر کرے گا۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CBOs کی ایگر یکٹو یکٹی ہر تین ماہ میں کم از کم ایک بار اپنے اجلاس منعقد کرے گی۔</li> <li>CBO کی ایگر یکٹو یکٹی کے اجلاسوں کا کورم ایگر یکٹو یکٹی کی کل رکنیت کا پالیس فیصد (40%) ہو گا۔</li> <li>CBO کی جزل بادی کے اجلاسوں کا کورم اس کی کل رکنیت کا ایک چوتھائی ہو گا۔</li> <li>CBO کے جزل سکریٹری اجلاسوں کی کارروائیوں کو ریکارڈ کرنے اور مالیاتی اور اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔</li> </ul>   | <p>کاروبار کا طرز عمل</p> <p>12</p>               |

## (d) کمیوٹی کو نسل اور پیچائیت کے ذریعے کمیوٹی موبائلائزشن<sup>15</sup>

| نمبر | آنٹم                 | تفصیل   |
|------|----------------------|---|
| 1    | قیام / تشكیل         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• شہری یونین کو سل اپنے مقامی علاقے کے لیے مقررہ طریقے سے کمیوٹی کو سل تشكیل دے سکتی ہے۔</li> <li>• دییو یونین کو نسل اپنے مقامی علاقے کے لیے مقررہ طریقے سے پیچائیں تشكیل دے سکتی ہے۔</li> <li>• اگر کوئی یونین کو نسل باترتیب اپنی متعلقہ کمیوٹی کو نسل یا پیچائیں تشكیل دینے یا اپنے اداکین کو نامزد کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو، مقامی حکومت کا سربراہ جس کے مقامی علاقے میں، جیسا کہ معاملہ ہو، ایسی یونین کو نسل داچ ہو، اسے تشكیل دے گا اور اسے بھی نامزد کرے گا۔ اداکین</li> </ul>                                    |
| 2    | رکنیت کا معیار       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ایک کمیوٹی کو سل یا پیچائیت پانچ سے زیادہ ممبر ان پر مستحق نہیں ہوگی، جس میں کم از کم دو خواتین شامل ہوں، متعلقہ یونین کو نسل کے ذریعہ نامزد کیا جائے گا۔ جیسا کہ معاملہ ہو، اپنے مقامی علاقے کے رہائشوں میں سے بیش طیکہ مقامی حکومت کے کسی بھی منتخب عہدیدار کو کمیوٹی کو نسل یا پیچائیت کارکن مقرر نہیں کیا جائے گا۔</li> <li>• کمیوٹی کو نسل یا پیچائیت کے ممبر ان کے پیش میں کوئی بھی غیر معمولی آسامی، جتنی بلدی ہو سکے پر کی جائے گی، لیکن اس آسامی کے وقوع پذیر ہونے کے تین دن کے اندر اندر نہیں ہوگی۔</li> </ul>     |
| 3    | معززین کی مدت        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• کمیوٹی کو نسل یا پیچائیت کے ممبر ان یونین کو سل کی مدت کے لیے نامزد کیے جائیں گے۔</li> </ul>   |
| 4    | CBO / افران کی تحریک | <ul style="list-style-type: none"> <li>• جہاں نامزد لوگوں کو نہ نہیں کی رائے میں، کمیوٹی کو نسل یا پیچائیت کے کسی رکن پر اپنے فرائض کی انجام دی میں مسلسل جانبداری اور بدیانتی کا الزام لگایا جاتا ہے، متعلقہ یونین کو نسل، سماعت کے موقع کے تحت، ایسے رکن کو بہنا سکتی ہے اور کسی دوسرے کو نامزد کر سکتی ہے۔ اس کی جگہ ممبر ایسے بہتائے گئے ممبر کی بقا یا مدت پوری کرے۔</li> <li>• ذیلی دفعہ (7) کے تحت فیصلے کے خلاف اپنی متعلقہ تحریک کے مکمل کے استثنے ڈائریکٹر کے پاس پندرہ دنوں کے اندر دائز کی جا سکتی ہے، جو ایک ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کریں گے۔</li> </ul> |


## کمیوٹی کو نسل یا پیچائیت کے عمومی کام

| نمبر | آنٹم             | تفصیل   |
|------|------------------|---|
| 1    | محکم کرنا        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• رضا کارانہ وسائل تکمیل جسمانی مشقت اور افرادی وقت، جائیداد اور مقامی علاقے میں میو پس اور فلاج سر گر میوں کے لیے نقد عطیات شامل تکمیل کی فرائیں اور مختی غریب اور نادار رہائیوں کی ثانیوں کا انتظام</li> <li>• عوامی سڑکوں، تھیکیں کے میدانوں، پارکوں، پبلوں اور عوامی عمارتوں کی دیکھ بھال، نہروں اور واڑ کو سر کی صفائی میں کمیوٹی کے افراد کو شامل کریں۔</li> </ul> |
| 2    | سهولت فراہم کرنا | <ul style="list-style-type: none"> <li>• اقتصادی منافع کو بہتر بنانے اور پیچوالا غربت میں کمی اور صارفین کے تحفظ کے لیے کو آپ بیوی کی تحریک</li> </ul>  |
| 3    | فروع دینا        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• درخت لکھا، لیٹڈ سکپینگ اور یونین کو سل کی خوبصورتی</li> </ul>  |
| 4    | منظوم کریں       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• غیر مسلح یونین کو سل گاڑڑ کے ذریعے علاقے میں نظر رکھیں اور وارد کریں۔</li> </ul>   |
| 5    | روکنا            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عوامی راستوں، عوامی گیوں اور عوامی مقامات پر پریشانیوں کو کم کریں۔</li> </ul>  |
| 6    | رپورٹ ...        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• سرکاری افسران کی حاضری اور غیر حاضری۔</li> <li>• معدود روں، بے سہارا اور انتہائی غربت کے کیسز متعلقہ مقامی حکومت کو دیں اور ان کی فلاج و ہیود کے لیے اپنی مدد آپ کی بنیاد پر فنڈز جمع کریں۔</li> </ul>   |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <p>قیمت کنٹرول کی خلاف ورزیاں اور صارفین کے مفاد کی نمائندگی کرتی ہیں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● بندھو اور چاند لیبر اور ان کی بھائی کے لیے کوششیں</li> <li>● گھریلو تشدد اور بچوں اور خواتین کے خلاف جرائم کے واقعات</li> <li>● مقامی علاقوں میں جرائم</li> <li>● عوای املاک اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان، نقصان یا خطرہ؛</li> <li>● بیماریوں اور آگل وغیرہ کا پھیلنا</li> <li>● قانون کی خلاف ورزی کرنیا اس کے ارد گرد مقامی علاقے میں پکڑا جانا متعلقہ حکوم کو</li> <li>●</li> </ul>  |                                     |
| <p>حکوم اور مقامی حکومتیں عوای آگاہی مہم ہیں</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● دیگر ملحقہ کیوں نئی کو نسلوں اور پیچائیوں کے ساتھ اور مقامی حکومتوں یا حکومت کی طرف سے دیا گیا کوئی دوسرا کام</li> <li>● انجام دینا۔</li> <li>● کیمیوٹی کو نسل یا پیچائیت اپنی متعلقہ یونین کو نسل کی مدد کرے گی۔</li> <li>○ یونین کو نسل میں سروے کرنا اور سماجی و اقتصادی ڈینا کٹھا کرنا</li> <li>○ میوپل سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے سائنس کا انتخاب</li> <li>○ تجاوزات کی تشنیدی</li> <li>○ دیسی یونین کو نسل کی تدفین کی بگھوں اور شمشان گھاٹ کا انتقام</li> <li>○ یونین کو نسل کی سڑکوں، گلیوں اور راستوں کا انتقام اور روشنی؛ اور</li> <li>○ لینڈ رینو اور دیگر ٹیکوں کی وصولی میں سہولت فراہم کرنا</li> </ul> | <p>مددا اور رابطہ کاری</p> <p>7</p> |

## Development Project Stages & Cycle

Project cycle is a combination of following 07 stages



| Stage                                   | Detail  |
|---|---|
| <b>1. Planning &amp; Identification</b> | <p>Spatial planning is the responsibility of the DG and is to be done by the EDO (F&amp;P) office. All the district offices have to submit their development plan for integration to EDO (F&amp;P) office. Where do the project come from? There is no simple answer to that question but Union Council is the best grass root institute to identify the development projects and send them to TMA or DG by Naib Nazim or Nazim respectively.</p> <p>When single line budget transfer has been mandated to LGs then they (DG &amp; TMA) should be fed by (UC) the grass root level for allocation of funds for need based projects. UCs to draw a list of development projects and after discussions and prioritize these projects. The projects falling with in the domain of DG be send to them while TMA be referred all municipal services projects. Province can only identify development projects, may be without UCs consultation, in areas that are not devolved like WAPDA or Irrigation.</p> |
| <b>2. Preparation/ Formulation</b>      | <p>At this stage the project is seriously considered for possible investment. This stage involves technical, financial and economical feasibilities. Decisions are made on scope of the project, location of project, site and technical requirements are worked out. Alternates and other viable options are also worked out at this stage.</p> <p>Complete technical specifications of distinct proposals accompanied by full details of financial and economic costs and benefits are outcome of this stage.</p>   |
| <b>3. Appraisals</b>                    | <p>This stage consists of comprehensive and systematic review of all aspects of project proposal. Appraisal should cover at least seven aspects of a project</p>  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technical</li> <li>• Financial</li> <li>• Commercial</li> <li>• Incentive</li> <li>• Economic</li> <li>• Managerial</li> <li>• Organizational</li> </ul>                                    |
| <b>4. Approval</b>       | Once the project has successfully gone through above processes then it is considered sound for investment. The competent authority grants approval for implementation of the project.  |
| <b>5. Implementation</b> | At this stage funds are actually disbursed to concerned authority/entity for execution. Major priority during this stage should be that cost does not escalate and it is completed within the specified time.                        |
| <b>6. Management</b>     | Once the project is successfully implemented/executed it is handed over to the concerned authority, depending upon type of the project for management. Required O&M funds are earmarked for smooth running of the completed project. |
| <b>7. Evaluation</b>     | It is always useful to carry out post implementation evaluation of the completed project. This will help in drawing lessons that, if incorporated, in next project cycle could help.   |

- اختتام -